



الکرآنک کار و بار کے

شرعی ضوابط و احکام

مؤلف

مفتی محمد شعیب اللہ خان حنفی مقتصدی

بانی و رہنمای جامعۃ الاسلامیہ مسیح یعقوب بر سینگلور

مکتبہ مسیح الامم لیونڈ و سینگلور

محفوظ جمعیت حقوق



نامہ تاب : الکرآن کاروبار کے شرعی ضوابط و احکام

مؤلف : مفتی محمد شعیب اللہ خان حنفی فقیحی داہر کاہم

بلانچ روپتم الجامعہ او صلی اللہ علیہ وسلم مسیح بن یوسف رسکوور

صفحات : ۱۲۳

تاریخ طباعت : ربیع المحرج ۱۴۳۹

ناشر : مکتبہ مسیح الائمه (دینیہ) و سینگاوار

موباکل نمبر : 9036701512 / 09634830797

ایمیل : maktabahmaseehulummat@gmail.com

الفہرست

صفحہ	عنوان
۷	نحوہ
۱۱	تفصیل الکٹر انک کاروبار کی تاریخ اور حقیقت
۱۲	الکٹر انک کاروبار کا تاریخی جائزہ
۱۳	الکٹر انک تجارت کی تعریف
۱۵	الکٹر انک تجارت کا طریق کار
۱۷	مقصد اول شریعت میں کاروبار کے عام اصول و ضوابط اور ان کا الکٹر انک کاروبار پر انطباق
۱۷	ایک اصولی بات
۱۸	عقد بیع و شراء کے اصول اور الکٹر انک تجارت
۱۸	پہلا اصول - طرفین کی رضامندی

۱۸	دوسرے اصول - عقد نفع کے لیے تین امور لازم ہیں
۲۰	ایجاد و قبول کی حقیقت
۲۳	الکرٹ انک تجارت میں ایجاد کی صورت
۲۴	پہلا نظریہ
۲۵	دوسرانظریہ
۲۵	جمہور علماء کے نظریے کی وضاحت
۲۶	الکرٹ انک تجارت میں قبول کی صورت
۲۷	تیسرا اصول - ایجاد و قبول میں اتصال
۲۹	اتصال ایجاد و قبول کی دو صورتیں
۳۱	الکرٹ انک کاروبار میں اتحاد مجلس کی صورت
۳۲	اتحاد مجلس سے مراد زمانہ عقد ہے
۳۳	اس سلسلے میں ایک اشکال کا حل
۳۴	اتحاد مجلس کا معیار کیا ہوگا؟
۳۵	چوتھا اصول - قبولیت کا علم
۳۶	پانچواں اصول - شمن کی ادائیگی
۳۷	الکرٹ انک کاروبار میں شمن کی ادائیگی کے طریقے
۳۸	(۱) بینک اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی کا حکم
۳۹	بینک ٹرانسفر کی تکمیل فتحی میں مختلف آراء
۴۰	ایک اشکال کا جواب

۵۰	(۲) چیک (Cheque) اور ڈرافٹ (Draft) سے شمن کی ادائیگی کا حکم
۵۸	چیک (Cheque) کی اقسام اور ان کے احکام
۵۸	بینک ڈرافٹ (Bank Draft)
۶۳	تصدیق شدہ چیک (Certified Cheque)
۶۶	ذاتی چیک (Personal Cheque)
۷۵	(۳) کریڈیٹ کارڈ (Credit Card) کی مختلف قسمیں اور ان سے شمن کی ادائیگی کا حکم
۷۶	(۱) ڈبیٹ کارڈ (DEBIT CARD)
۸۰	(۲) چارج کارڈ (Charge Card)
۸۱	(۳) کریڈیٹ کارڈ (Credit Card)
۸۹	چھٹا اصول - بیع کی سپردگی و قبضہ
۹۰	الکٹر انک کارڈ پار میں بیع کی سپردگی
۹۰	قبضے کی حقیقت
۹۳	قبضے کی اقسام اور صورتیں
۹۹	قبضے کی مختلف صورتوں کا خلاصہ
۱۰۱	ایک انتباہ
۱۰۱	ساتوں اصول - بیع کا علم و تعین
۱۰۲	بیع بالصفة والبراج مع کا حکم
۱۰۷	الکٹر انک کارڈ پار میں خیار رویت

۱۱۱	ایک ضروری وضاحت
۱۱۲	الکرٹ انک کاروبار میں "بیع الصرف" کا حکم
۱۱۳	بیع الصرف کی تعریف اور حکم
۱۱۴	فارسیکس ٹریڈنگ کے طریق کا شرعی حکم
۱۱۵	مقصد ثانی الکرٹ انک خدمات اور شرعی احکام
۱۱۶	شریعت میں اجرے کے اہم اصول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُحَمَّد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

یہ بات کون نہیں جانتا کہ آج کا یہ دو مختلف قسم کی مادی ترقیوں اور ظاہری نیرنگیوں، حریرت انگریز ایجادات اور محیر العقول تحقیقات کا دور ہے۔ اور جب سے جدید صفتی و فکری انقلاب نے جنم لیا ہے روز رو تجرب خیز اور حریرت زا ایجادات و تحقیقات سامنے آتے جاتے ہیں، ہر چیز کے نئے نئے انداز طریقے وجود پذیر ہوتے جاتے ہیں اور اسی ترقی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ماکولات، مشروبات، ملبوسات کی نئی نئی اقسام و انواع کا ایک غیر مختتم سلسلہ اس جہاں رنگ و بوی میں نظر آتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تجارتی دنیا میں کاروبار کی ایسی صورتیں اور شکلیں پیدا کر دی گئی ہیں جن کا ماضی میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔

انہی جدید کاروباری طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے جس کو ”آن لائن خرید و فروخت“ یا ”الکرآنک تجارت“ اور انگریزی میں (Electronic Business) یا E-Business کہا جاتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک ہر معاملے اور ہر کاروبار میں، خواہ قدیم ہو یا جدید، یہ لازم ہے کہ وہ قانون شریعت کے دائرے میں اور اس کے قواعد و خواہد کے مطابق ہو؛ لہذا جو بھی نئے انداز کا کوئی معاملہ یا کاروبار سامنے آئے تو ایک مسلمان ہونے کی

حیثیت سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا حکم شرعی معلوم کرے کہ یہ معاملہ جواز کے حدود میں آتا ہے یا عدم جواز کے؟ اگر جواز کے حدود میں آتا ہو تو اس کو اختیار کرے اور حرمت یا کراہت کے حدود میں آتا ہو تو اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔

اگر ایک جانب عوام الناس کی یہ ذمے داری نہیں ہے کہ وہ جدید معاملات و مسائل کا شرعی حل علماء سے معلوم کریں تو دوسری جانب حضرات علمائے کرام بالخصوص اصحاب فقہہ فتویٰ و ارباب اجتہاد و نظر کے لئے ھوں پر اس سلسلے میں بہت اہم اور بڑی ذمے داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ تفہیمہ اور بصیرت اور اجتہادی قوت و صلاحیت سے کام لیتے ہوئے ان جدید پیش آمدہ مسائل کا حکم شرعی دریافت کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے امت کی رہبری کافر یا ضانجام دیں۔

یہ ظاہر ہے کہ جدید مسائل کی ان صورتوں اور بالخصوص کاروباری مسائل کی جدید شکلؤں کا حکم شرعی قرآن و حدیث کی نصوص اور فقہائے مجتہدین کے کلام میں صراحةً کے ساتھ ماننا ممکن نہیں ہے؛ کیوں کہ جدید کاروباری صورتوں اور شکلؤں میں سے بیشتر آج کے مشینی دور اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے زمانے کی پیداوار اور ایجاد ہیں، پہلے یہ صورتیں اور شکلیں موجود نہیں تھیں، لہذا ان کا ذکر نصوص قرآن و سنت میں یا حضرات علمائے مجتہدین کے استنباطات میں واضح طور پر تو نہیں ملے گا، لیکن قرآن و سنت کے اسلوب بیان کا اعجاز اور ان کی ما فوق العادۃ بلاغت، نیز فقہائے کرام کی فقیہانہ و مجتہدانہ صلاحیت اور ان کی بالغ نظری و بلند نگاہی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے کلام میں تفکر و تدبیر کرنے والوں کو ایسے اصول و قواعد جاتے ہیں جن کی روشنی میں ان جدید مسائل کا حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

لہذا ہر زمانے کے اہل نظر و اجتہاد علماء کی ذمے داری ہے کہ اپنے اپنے دور میں پیش آنے والے نئے مسائل کی ان قواعد و اصول کی روشنی میں تختیج کریں اور ان کا حل تلاش کریں؛ چنان چہ ہر دور میں علمائے کرام نے اپنے اپنے زمانے میں پیش آمدہ جدید مسائل

کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتے ہوئے، اصول شرع اور قواعد فقہ کے تحت ان مسائل کے تخریج و استنباط کا کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے مزاج و اصول کے مطابق انسانی مصالح اور ضروریات زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان مسائل میں افراط و تفریط سے پاک معقول را اختیار کی، ان حضرات نے نہ تو ان مسائل سے صرف نظر کرنے اور خواہ مخواہ کے جمود و تنازع نظری کو ردار کھٹتے ہوئے ہر نئی چیز اور ہر جدید نظام کو ناجائز قرار دیا اور نہ ان میں تباہی و ہبہ انگاری سے کام لیتے ہوئے ہر معااملے کو جائز قرار دینے اور اس کے لیے شریعت میں وجہ جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، بل کہ ان دونوں کے مابین افراط و تفریط کی دو انتہاؤں سے بچتے ہوئے اُس معقول راہ کو اپنایا جو مزان شریعت سے ہم آہنگ ہے۔

زیر نظر رسالہ میں ہم نے "الکرآنک تجارت" (Electronic Business) کے سلسلے میں اسی اصول کے تحت کلام کیا ہے اور اس کے متعلق احکام شرعیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور قدیم فقهاء کے کلام سے مسائل حاضرہ کے نظائر کو پیش کرنے کے ساتھ یہ کوشش بھی کی ہے کہ ان احکام کے سلسلے میں دور حاضر کے یا قریبی دور کے فقهاء کرام نے جو کلام کیا ہے، اس کو بھی مدد نظر رکھا جائے، چنان چہ تی المقدور علماء عرب اور علماء ہندو پاک میں سے جنہوں نے جدید مسائل پر کلام کیا ہے ان کی تحقیقات کو ہم نے اہمیت کے ساتھ لیا ہے اور الکرآنک تجارت کے مسائل کو معقول راہ پر حل کرنے کی کوشش کی ہے؛ مگر یہاں یہ بات فرماؤش نہیں کرنا چاہئے کہ یہ جدید مسائل چوں کرنی الواقع جدید حالات کی پیداوار ہیں اور ان کا حکم منصوص نہیں ہے، اس لیے ان کے احکام کی تخریج میں علماء کے مابین اختلاف نظر و فکر کا ہونا ایک فطری و طبعی امر ہے؛ لہذا یہاں بھی ممکن ہے کہ بعض آراء سے دوسرے حضرات علماء کو اختلاف ہو، اور یہ کوئی تجھب خیز امر ہے، نہ کوئی معیوب بات؛ بل کہ علمی دنیا کی ایک جانی پہچانی جنس ہے؛ لہذا اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو وہ اپنے نقطہ نظر کو بہ دلائل واضح کر سکتے ہیں۔

اور احقر یہاں یہ کہتے ہوئے کسی قسم کی تواضع سے کام نہیں لے رہا ہے کہ یہاں اس بات کا بھی قوی و شدید امکان ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی استنباطی قسم و خاری رہ گئی ہو، یا کسی جگہ سہوونیان کا دخل ہو گیا ہو؛ لہذا احقر حضرات علمائے کرام کی خدمات عالیہ میں عرض گزار ہے کہ جن حضرات کو احقر کی کسی خطاطی پر اطلاع ہو وہ حضرات متینہ فرمائے کہ عند اللہ ماجور ہوں؛ تاکہ دوسرے اڈیشن میں اس کی تلاشی و اصلاح کی جاسکے۔
 اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریر کو شرف قبول سے نوازے اور اس کو احقر کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

۲۳۔ صفر المظفر ۱۴۳۸ھ

مطابق ۲۲۔ نومبر ۲۰۱۶ء

فقط

محمد شعیب اللہ خان

جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَفْرِيْح

الکٹر انک کاروبار کی تاریخ اور حقیقت

الکٹر انک کاروبار کا تاریخی جائزہ

آج کے دور میں آن لائن کاروبار (جس کو الکٹر انک تجارت بھی کہتے ہیں) عالمی پیمانے پر رواج پا چکا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ پورے عروج و استحکام کے ساتھ جاری و ساری ہے، جب سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے عالمی پیمانے پر رواج پایا ہے، اس وقت سے آہستہ آہستہ تجارت نے بھی اپنے قدیم اور پرانے رسی طریقوں کی جگہ نئے نئے انداز اور طریقوں کو قبول کرنا شروع کر دیا اور اب یہ "الکٹر انک طریق تجارت" عالم اقتصادیات میں ایک اہم روپ ادا کر رہا ہے اور ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ "یہ الکٹر انک تجارت اس عالمگیریت کے دور (Global Age) میں تجارتی حکمتِ عملی کا ایک مضبوط عضر اور اقتصادیاتی ترقی کے لیے ایک بہترین محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیز الکٹر انک کاروبار نے عالمی سطح پر ہر قسم کے سامان اور اشیاء کے بیچنے اور خرید نے والوں اور ان کے مابین کام کرنے والی ایجنسیوں کو وسیع پیمانے پر اپنی اشیاء اور خدمات سے متعارف کرانے اور ان کی نکاسی کا ایک بہترین موقعہ فراہم کر دیا۔"

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے الکٹر انک تجارت کا سلسلہ ۱۹۷۸ء کے اوائل میں آغاز ہوا اور اس کی ابتداء بعض کمپنیوں کے مابین رقوم کے الکٹر انک تبادلے (Transfer Fund Electronic) سے ہوئی۔ پھر اس میں مزید وسعت ہوئی تو کارخانوں، خدمتی

اداروں، شیئرز کمپنیوں اور سفری ٹکٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر ۱۹۹۰ء کے اثناء میں انٹرنیٹ ایک مالی فائدے کے مادہ کی حیثیت سے سامنے آیا اور اس کا پھیلاو ہوتا چلا گیا اور لاکھوں انسانوں تک پہنچ گیا اور الکٹرانک تجارت کی اصطلاح ظہور میں آئی اور اسی کے ساتھ مختلف اداروں اور کمپنیوں کے بین تنافس و تقابل (Competition) نے شدت پکڑی اور الکٹرانک پروگرام اور ویب سائٹ نے ترقی کی، یہاں تک کہ ۱۹۹۲ء میں عالمی ویب سائٹ (WWW) سامان اور خدمات کی ترویج کے لیے قائم ہوئی، پس کاروباری لوگ اور اداروں اور کمپنیوں کے ذمے دار ان ویب سائٹوں پر آنے لگے اور اپنے کاروباری معاملات ای میل (E-Mail) سے انجام دینے لگے اور دوسرا جانب اپنے سامان (Products) اور خدمات (Servises) بھی اپنے اپنے ویب سائٹوں پر جن کو انہوں نے جاری کیا ہوا تھا، پیش کرنے لگے۔

اور سنہ ۱۹۹۵ء کے بعد اشتہارات، نیلامی وغیرہ کے میدان میں نئے نئے معاملات عام ہوئے جب کہ کمپنیوں نے اپنے اپنے ویب سائٹ جاری کئے اور ان کو اپنی کمپنیوں سے متعلق معلومات سے بھر دیا اور سنہ ۱۹۹۶ء میں یہ تقابل و تنافس ”الکٹرانک کاروبار“ کو رواج دینے میں نٹ سکیپ (Netscape) اور میکروسافت (Microsoft) کمپنیوں کے مابین برابر جاری رہا اور پھر وہیں سے ان کے اور (Apache) کے مابین بھی بعض سنتے اور مفت سافٹ ویر جاری کرنے کے سلسلے میں تنافس و تقابل (Competition) رہا۔

پھر ولایت متحدة امریکہ نے اس نظام تجارت کو مزید تقویت دیتے ہوئے بڑے بڑے تجارتی توجہ ”ویب سائٹس“ کی جانب کی توہینیں سے اس کی جانب لپکتے ہوئے ان تجارت نے اس حوالے سے اپنا نام پیدا کیا اور اس طرح اس طریق تجارت نے سارے عالم پر اپنا سایہ ڈال دیا۔

اس الکٹرانک تجارت کے اثر و نفوذ کا حال یہ ہے کہ فرانس میں اگر

الکٹر انک تجارت کا سلسلہ چودہ فی صد تھا تو ۱۹۹۷ء میں صرف ایک سال کے بعد چوبیس فی صد ہو گیا اور اس سلسلے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ۱۹۹۸ء میں یہ بڑھ کر ۲۸ فی صد تک پہنچ گئے اور امریکہ میں ۱۹۹۶ء میں مختلف اجتاس کی خرید و فروخت ۱۸ ہلین ڈالر کی ہوئی اور یہ نسبت بڑھ کر ممکن ہے کہ ۹۷ ہلین ڈالر تک پہنچ جائے۔

الغرض اس وقت الکٹر انک کاروبار عالمی پیمانے پر چھایا ہوا ہے جس نے آہستہ آہستہ قدیم روایتی کاروباری طریقوں کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا ہے اور ممکن ہے کہ چند برسوں کے بعد روایتی طریق تجارت اس قدر کم ہو جائے کہ بقول بعض "الکٹر انک تجارت" سے لفظ "الکٹر انک" ہی ختم ہو جائے اور صرف لفظ تجارت ہی اس مفہوم کو دادا کرنے کے لیے کافی سمجھا جائے۔ (۱)

الکٹر انک تجارت کی تعریف

سب سے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ "الکٹر انک تجارت" کے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے؟ مگر اس سوال پر جب غور کیا جاتا ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح آجکل کثیر الاستعمال ہونے کے باوجود اس کی کوئی جامع واضح تعریف ماہرین اقتصادیات نہیں کی ہے اور انہوں نے اس میں کافی اختلاف کیا ہے۔

بعض ماہرین اقتصادیات نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے:

Electronic commerce is the buying selling, marketing and servicing of products and sevices via computer networks. (۲)

(۱) تفصیل کے لیے دیکھو: قانون التجارة الالكترونية، عبد الرزاق عمر جاجان الزايد، ۹-۱۰، العقد الالكتروني للدكتور ماجد محمد سليمان ابا الخيل، ۲۱-۲۳، التجارة الالكترونية في الشريعة: ۸-۹، (۱)

(E-business by Colin Combe , p : 5-7

(۲) Introduction to E-business by Colin Combe , p : 1

(الکٹرانک اقتصاد یہ تجارت کمپیوٹرنیٹ ورک کے ذریعے سامان کی خرید و فروخت کرنے، شاپنگ یعنی اپنے سامان کو بازار میں لانے کے طریقے تلاش کرنے اور مختلف قسم کی خدمات انجام دینے کا نام ہے۔)

بعض حضرات نے کہا ہے:

”إنه وسيلة من أجل إيصال المعلومات ، أو الخدمات ، أو المنتجات عبر الهاتف ، أو عبر الشبكات الكمبيوترية ، أو عبر أي وسيلة تقنية“

(یہ الکٹرانک تجارت معلومات، خدمات اور سامان کو فون یا ویب سائٹ پر کسی بھی تکنیک کے ذریعے سے پہنچانے کا وسیلہ ہے۔) (۱)

ایک تعریف ”الکٹرانک تجارت“ کی یہ کوئی گئی ہے:

”الکٹرانک تجارت“ دراصل الکٹرانک آلات وسائل (جیسے سیل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ) کے ذریعے کاروبار کا نام ہے۔ (۲)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الکٹرانک تجارت دراصل الکٹرانک وسائل کے واسطے سے انجام دی جانے والی تجارتی سرگرمیوں کو کہا جاتا ہے اور یہ الکٹرانک وسائل متعدد ہیں، جیسے، ٹیلی فون، فیاکس، ٹیلکس، پیجیر، لائلکس، سیل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ، لہذا ان سب الکٹرانک چیزوں کی مدد سے سامان کی خرید و فروخت اور متعدد خدمات (Services) کی پیش کش یا مختلف قسم کی معلومات کی فراہمی اور ان کی تحریک کا نام ”الکٹرانک تجارت“ ہے؛ لیکن ان میں سے بعض چیزیں اب اس پیمانے پر مستعمل نہیں ہیں جیسے پہلے دور میں تھیں، جیسے پیجیر، ٹیلکس وغیرہ اور بعض چیزوں کا رواج روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جیسے سیل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ان میں بھی انٹرنیٹ کے وسیلے سے کاروبار سب سے زیادہ رائج ہوتا جا رہا ہے؛ اس لیے بعض

(۱) التجارة الإلكترونية للبساص نور:

(۲) التجارة الإلكترونية في الشريعة للدكتور جمال عبود محمد الذيب:

حضرات نے الکٹرائیک تجارت کو صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے واسطے سے کیے جانے والے کاروبار تک محدود کر دیا ہے بلہذا الکٹرائیک کاروبار کی اس بحث میں ہم بھی زیادہ تر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے کاروبار سے تعریض کریں گے اور ضمناً دوسرا چیزوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔

الکٹرائیک تجارت کا طریق کار

یہ توبہ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی ترقی اور دسعت نے اچھے برے بہت سے کام اس سے متعلق کر رکھے ہیں اور ان میں سے کاروباری معاملات بھی ہیں جنہیں اس سے متعلق کر دیا گیا ہے۔

اور یہ کاروباری معاملات دو قسم کے ہیں: ایک عقد بیع (یعنی خرید و فروخت کا معاملہ) دوسرا اجارہ (یعنی کرایہ داری کا معاملہ) جیسے مختلف قسم کی خدمات (Services)۔

انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائیٹس (Web sites) موجود ہیں، جن سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی چیز کا آرڈر دیا جا سکتا ہے اور اپنی پسندیدہ اشیاء خریدی جا سکتی ہیں، اسی طرح کوئی خدمت کسی سلسلے کی لینا چاہیں تو انٹرنیٹ کی مدد سے متعلقہ ویب سائیٹ پر جا کر وہ خدمت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔

اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے:

(۱) ویب سائیٹ پر جا کر جس چیز کی خریداری مطلوب ہے اس کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور ان ویب سائیٹوں سے منبع کی نوعیت، اس کی صفت و کیفیت اور اس کی قیمت وغیرہ امور معلوم ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی خدمت درکار ہے تو اس کی تفصیلات بھی معلوم کی جا سکتی ہیں بلہذا انکوہرہ معلومات کے بعد جو چیز پسند ہو یا جو خدمت مطلوب ہو اس پر ٹکلک کر دیا جاتا ہے۔

(۲) یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ قیمت کس طرح سے ادا کی جائے گی، مثلاً کریڈیٹ کارڈ

سے یچیک سے یا منی آرڈر سے۔

(۳) اپنا مم و پتہ وغیرہ کا اندرانج کر دیا جاتا ہے تو کہ بیع وہاں پہنچائی جاسکے۔
جب یہ واضح ہوا کہ ”الکٹرانک تجارت“ کیا ہے اور اس کا طریق کا رکیا ہے تو یہ سوال
پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہاں اسی قسم کے سوالات کا شرعی حل اور حکم پیش کرنے
کی کوشش کی جا رہی ہے۔



مقصدِ اول

شریعت میں کاروبار کے عام اصول و ضوابط اور ان کا الکرمانک کاروبار پر انطباق

ایک اصولی بات

سب سے پہلے یہاں ایک اصولی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقد بیع و شراء کے جو اصول و طریقے شریعت میں مقرر ہیں اور حضرات فقہائے کرام نے اس کی تو پنج دشتریح کی ہے، وہی اصول و طریقے کسی بھی بیع و شراء میں جاری ہوں گے، خواہ کوئی قدیم طریقہ بیع و شراء ہو یا کوئی جدید انداز، اسی طرح اجارے اور کرایہ داری کے جو اصول اور طریقے شریعت میں پہلے سے مقرر ہیں، وہی ہر نئے طریقے میں بھی جاری ہوں گے، لہذا یہ دیکھنا ہو گا کہ شریعت کے جو عام اصول بیع و شراء اور عقد اجارے کے سلسلے میں مقرر ہیں، وہ اس نئے انداز کی تجارت اور کاروبار میں جس کو "الکرمانک تجارت" کہا جاتا ہے، پائے جاتے ہیں اور اس پر جاری ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر جاری ہوتے ہیں تو اس پر جواز کا اور جاری نہیں ہوتے تو جس حد تک جاری نہیں ہوتے اس حد تک عدم جواز کا حکم کیا جائے گا۔

لہذا اولاً یہاں "عقد بیع و شراء" اور "عقد اجارے" کے جو عام اصول شرع میں مقرر ہیں، ان کا ذکر کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس جدید کاروبار "الکرمانک تجارت" پر ان کا کس حد تک انطباق ہو رہا ہے؟ نیز اس سلسلے میں معاصر علمائے کرام کے نقاط نظر بھی پیش کیے جائیں گے۔

پہلے ہم عقد بیع و شراء کے سلسلے میں کلام کریں گے، پھر عقد اجارہ پر گفتگو کی جائے گی۔

عقدِ بیع و شراء کے اصول اور الکٹرانک تجارت

شریعتِ اسلامیہ میں عقدِ بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کا معاملہ جائز و صحیح ہونے کے لیے چند اصول و ضوابط مقرر ہیں، جن کا وجود کسی بھی تجارت کی صحت و جواز کے لیے لازم ہے۔ لہذا ہم یہاں ان میں سے اہم اصول و ضوابط پیش کر کے یہ دکھائیں گے کہ الکٹرانک تجارت ان پر کہاں تک منطبق ہوتی ہے؟ اگر منطبق ہوتی ہے تو وہ جائز اور صحیح ہوگی اور اگر منطبق نہیں ہوتی تو صحیح و جائز نہیں ہوگی۔

پہلا اصول - طرفین کی رضامندی

عقدِ بیع کا ایک عام اصول یہ ہے کہ عقدِ بیع کی صحت کے لیے طرفین (خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریق) کی رضامندی لازم و ضروری ہے، اگر بالع (بینے والا) راضی ہے اور مشتری (خریدار) راضی نہیں یا اس کے برکش صورت ہو تو یہ بیع جائز و درست نہیں ہوتی۔

”الکٹرانک تجارت“ میں آپسی رضامندی تو پائی ہی جاتی ہے؛ کیوں کہ جب کوئی شخص انٹرنیٹ کے ذریعے کسی ویب سائیٹ پر پیش کر کوئی معاملہ طے کرتا ہے تو خریدی جانے والی چیز کی تفصیلات اس کے سامنے آ جاتی ہیں جن میں چیز کی جنسیت، نوعیت، کیفیت، کیمیت اور قیمت وغیرہ سب معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ شخص ان کو جان کر اپنی جانب سے رضامندی کا اظہار اس خانے میں لکھ کر کے کر دیتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ اس کی رضامندی ہی سے ہوتا ہے۔

اسی طرح جو شخص یا کمپنی اور ادارہ کوئی چیز اس طریق سے فروخت کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنی رضاہی سے بیچتا ہے۔ لہذا یہاں دونوں طرف سے رضامندی کا پایا جانا مسلم ہے۔

دوسرا اصول - عقدِ بیع کے لیے تین امور لازم ہیں

عقدِ بیع کا دوسرا عام اصول یہ ہے کہ کسی بھی عقدِ بیع کے لیے لازم ہے کہ تین چیزیں پائی

جائیں: ایک صیغہ (جس کو ایجاد و قبول کہتے ہیں) دوسرے عاقدين (خریدنے اور بینے والے شخص) اور تیسرے معقود علیہ (وہ چیز جس پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔)

ان تین چیزوں کے لازم ہونے پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں ان حضرات کے مابین اختلاف ہے کہ یہ تینوں امور ارکان میں داخل ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک ان میں سے ایک چیز رکن ہے اور وہ ہے ایجاد و قبول اور دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ تینوں امور ارکان میں داخل ہیں۔

یہ اختلاف صرف ان امور کے رکن ہونے یا نہ ہونے میں ہے؛ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ امور بھی عقد بیع میں موقف علیہ کا درج رکھتے ہیں اور لازم و ضروری ہیں۔

”الموسوعة الفقهية“ میں ہے:

”وَ أَتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يُوجَدُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ عَاقِدٌ،
وَ صِيَغَةُ (الْإِيْجَابُ وَ الْقَبْولُ) وَ مَحْلُّ يَرْدُ عَلَيْهِ الْإِيْجَابُ وَ
الْقَبْولُ (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) وَ ذَهَبَ جُمُهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ
الثَّلَاثَةَ كُلُّهَا أَرْكَانُ الْعَقْدِ. وَ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَىٰ أَنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ هُوَ
الصِّيَغَةُ فَقَطُّ، أَمَّا الْعَاقِدَانِ وَ الْمَحْلِ فَمِمَّا يَسْتَلِزُمُهُ وُجُودُ
الصِّيَغَةِ، لَا مِنَ الْأَرْكَانِ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا عَدَّا الصِّيَغَةَ لَيْسَ
جُزءًا أَمِنَ حَقِيقَةِ الْعَقْدِ، وَ إِنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَيْهِ.“

(تمام فقہاء کا اتفاق ہے اس پر کہ عقد کا وجود نہیں ہو سکتا؛ مگر جبکہ عاقد اور صیغہ (ایجاد و قبول) اور محل موجود ہو جس پر ایجاد و قبول دار و ہوتا ہے یعنی معقود علیہ پایا جائے۔ اور جمہور فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں چیزوں عقد کے ارکان ہیں اور حنفیہ اس طرف گئے ہیں کہ رکن تو صرف صیغہ یعنی ایجاد و قبول ہے، باقی عاقدين اور محل عقد تو یہ عقد کے لوازمات میں

سے ہیں، نہ کہ ارکان میں سے اور یہ اس لیے کہ صیغہ کے علاوہ دوسری چیزیں

حقیقت عقد کا جزو نہیں ہیں؛ اگرچہ اس کا وجود اس پر موقوف ہے۔ (۱)

اب دیکھنا یہ ہے کہ الکثر انک بیع میں یہ امور کس حد تک پائے جاتے ہیں تاکہ اس کے جواز اور عدم جواز کا حکم لگای جاسکے؟

ایجاب و قبول کی حقیقت

مگر پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ایجاب و قبول کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات فقہائے کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اور خیرین والے کسی چیز کے خریدنے یا بینے کے سلسلے میں جو کلام کرتے ہیں، وہ ایجاب و قبول ہے، اور فقہائے ثالثہ (امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ) کے نزدیک ایجاب وہ کلام ہے جو باائع سے صادر ہو اور قبول اس کلام کو کہتے ہیں جو خریدار کی جانب اس کے جواب میں صادر ہو، جبکہ حفیہ یہ کہتے ہیں کہ ایجاب اس پہلے کلام کو کہتے ہیں جو اس سلسلے میں رضامندی پر دلالت کرتا ہے، خواہ وہ باائع کی جانب سے صادر ہو یا خریدار کی جانب سے ہو؛ مگر اس اختلاف سے کوئی خاص فرق مسائل پر نہیں پڑتا۔ الغرض ایجاب و قبول وہ کلام ہے جس سے معاملہ (یعنی لین دین) کرنے کے بارے میں متعاقدین کی رضامندی کا علم ہوتا ہے۔

اور فقہائے یہ تصریح کر دی ہے کہ ایجاب و قبول کے لیے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں ہیں، بل کہ کسی بھی ایسے لفظ سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے جو تمیک (مالک بنانے) اور تمیک (مالک بننے) پر دلالت کرنے والا ہو اور کسی بھی زبان میں اس غرض کو پورا کرتا ہو۔ (۲)

علامہ ابن الہبام رحمۃ اللہ علیہ "فتح القدير" میں لکھتے ہیں:

”وَالْإِيْجَابُ لُغَةٌ : الْإِثْبَاثُ لَأَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، وَالْمُرَادُ هُنَا

(۱) الموسوعة الفقهية: ۳۰/۲۰۰

(۲) الدر المختار مع رد المحتار: ۲/۵۱

إثبات الفعل الخاص المدار على الرضا الواقع أولاً.

(ایجاد لغت میں کسی بھی چیز کے اثبات کو کہتے ہیں اور یہاں مراد ایسے

خاص فعل کا اثبات ہے جو رضا پر دلالت کرے اور جو پہلے واقع ہو) (۱)

مزید یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایجاد و قبول میں نطق باللسان بھی لازم نہیں ہے؛ بل کہ اگر ایسا اشارہ کیا جائے جو خرید و فروخت کی نیت وارادے کا پتہ دیتا ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے اخْرَس (گونگے) کے لیے اشارہ کو کافی قرار دیا اور بیع تعاطی (عملی بیع) کو معین تسلیم کیا ہے۔

اسی کے پیش نظر علامہ مصطفیٰ الزرقاع رحمۃ اللہ علیہ نے ”المدخل الفقهي العام“ میں لکھا ہے:

”إن النطق باللسان ليس حتمياً لظهور الإرادة العقدية بصورة جازمة في النظر الفقهي؛ بل النطق هو الأصل في البيان ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن يعبر عن الإرادة الجازمة تعبيراً كاملاً مفيداً، وعلى هذا فقد رأى الفقهاء أنه يقوم مقام النطق في الإيجاب و القبول أحدي وسائل ثلاث أخرى، وهي: الكتابة، والإشارة من الآخرين، و التعاطي .“

(بلاشبہ زبان سے بولنا ارادہ عقد کے ظاہر ہونے کے لیے نظر فقہی میں حتیٰ و لازمی چیز نہیں ہے؛ بل کہ زبان اظہار کے لیے اصل ہے؛ لیکن کبھی اس کی قائم مقامی ہروہ اختیاری یا اضطراری وسیلہ و ذریعہ کر سکتا ہے جو ارادہ جازمہ کی کامل و فائدہ بخش تعبیر کر سکے اور اسی بنا پر فقہاء کی رائے ہے کہ ایجاد و قبول

میں نطق کے قائم مقام تین وسائل میں سے ایک ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہیں: کتابت، گونگے کا اشارہ اور عملی خریداری۔^(۱)

اسی طرح دکتور عبدالرزاق السنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”نظریۃ العقد“ میں لکھا ہے:

”کما یکون التعبیر الصريح بالكلام یکون بالكتابة أيضاً في أي شكل من أشكالها عرفية أو رسمية ، خاصة أو عامة في شكل سند أو خطاب أو نشرة أو إعلان موقعاً عليها أو غير موقع ، مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة أو بالآلة الطابعة أو بأية طريقة أخرى ، أصلًا كانت أو صورة ، وسواء هذه الصورة مصنوعة باليد أو مصورة و سواء كان نقل الكتابة مباشرةً أو بطريق التلفraf أو إشارات مصطلح عليها أو بغير ذلك من الطرق و یکون التعبیر الصريح بالإشارة كذلك فإشارة الآخرين غير المبهمة تعبير صريح عن إرادته.“

(صریح تعبیر جس طرح کلام سے ہوتی ہے اسی طرح کتابت سے بھی ہوتی ہے خواہ وہ کتابت عرفی یا رسی، خصوصی یا عمومی، کسی بھی شکل سے ہو، دستاویز کی شکل میں یا خط کی شکل میں یا اشتہار و اعلان کی شکل میں، جس پر خواہ دستخط ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، خواہ وہ ہاتھ سے لکھا ہو، یا تاپ رائیٹر یا پرنٹر سے یا کسی اور طریقے سے، پھر خواہ وہ اصل ہو یا اس کی فوٹو کاپی ہو، پھر یہ فوٹو کاپی خواہ ہاتھ سے بنائی ہو یا تصویری لگئی ہو اور خواہ وہ کتابت کی نقل پر راہ راست ہو یا بطريق ٹیلی گرام یا اصطلاحی اشارات سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو اور اسی طرح صریح تعبیر اشارے سے بھی ہوتی ہے؛ لہذا گونگے کا

(۱) المدخل الفقهي العام: ۳۱۱

اشارہ جو ہم نہ ہوں کے دلی ارادے کی صریح تعبیر ہے۔ (۱)
لہذا اکتابت ہو یا کوئی اشارہ ہو یا کمپیوٹر، موبائل، ٹیلیفون، ٹیلکس یا اور کوئی وسیلہ و ذریعہ ہو، وہ سب کے سب بھی ایجاد و قبول کے قائم مقام بن سکتے ہیں۔

الکرٹ انک تجارت میں ایجاد کی صورت

بہر حال جب معلوم ہو گیا کہ ایجاد اور قبول کی حقیقت کیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ
الکرٹ انک کاروبار میں ایجاد کس طرح پایا جاتا ہے؟
اس سلسلے میں علمائے عصر کے درمیان رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے اور اس میں دونوں نظریے
نظریں:

پہلا نظریہ

بعض علمائے عصر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ باائع کی جانب سے اگر عمومی انداز سے سامان و اشیاء کی پیش کش کر دی جائے اور ان کی قیمتیں کا چارٹ لگادیا جائے تو یہی دراصل ایجاد
کے حکم میں ہے۔ گویا خریداری کی ایک عمومی دعوت ہی کو یہ حضرات ایجاد کے قائم مقام
قرار دیتے ہیں۔

شیخ دکتور علی محی الدین القرہ داغی اور شیخ دکتور ابراہیم کافی دو نمکن کا یہی رجحان ہے، جیسا
کہ ان کی ابحاث سے اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم دو مرے نے اپنی بحث ”اجراء العقود
بالآلات الاتصال الحديثة“ مندرجہ ”مجلة الفقه الإسلامي“ میں لکھا ہے:

”ينبغي القول بأن توجيه الإيجاب إلى الجمهور يجوز ، و
بأن العقد بهذه الطريقة يعقد. وعلى هذا يجب مثلاً اعتبار
عرض البائع سلطته في الواجهة وضع قائمة الأسعار بيازاتها
إيجاباً ، ويجب القول بانعقاد العقد إذا التقى هذا الإيجاب“

(۱) بحوالہ: إجراء العقود بوسائل الحديثة: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم: ۲۳

بالقبول ممن له أهلية التعاقد . (و على هذا الحكم نصّ التشريعات الحديثة ، نحو الفقرة الأولى من المادة: ٨٠ من القانون المدني العراقي) ؛ لأن التراضي قد تحقق ؛ ولأن مبادئ الفقه الإسلامي في هذا الموضوع (الرضا ، رفع الاحتج ، و مراعاة الاستعمال الشائع أو العرف العادة) تستوجب هذا القول . ”

(مناسب بات یہ ہے کہ جبھوڑ کی جانب ایجاد کرنا جائز ہے اور یہ کہ اس سے عقد منعقد ہو جاتا ہے۔ اور اس بنا پر لازم ہے کہ باائع کے اپنے سامان کو دکان کے سامنے والے حصے میں رکھنے اور اس کے بالمقابل قیمتیوں کی فہرست کے لگادینے کو ایجاد مانا جائے اور یہ ماننا بھی ضروري ہوا کہ جب اس ایجاد سے قول ای شخص کی جانب سے جو اس کی الہیت رکھتا ہو متصل ہو جائے تو یہ عقد منعقد ہو گیا۔) (۱)

اسی طرح شیخ محمد الدین القره داغی نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ (۲) اور ان حضرات نے مالکیہ کے اس جزئیہ سے استدلال کیا ہے جو علامہ دروقی نے ”الشرح الكبير“ کے حاشیہ میں لکھا ہے :

”وَأَمَّا لَوْعَرَضَ رَجُلٌ مَسْلِعَتَهُ لِلْبَيْعِ وَقَالَ: مَنْ أَنْافَى بِعَشْرَةِ فَهِيَ لَهُ، فَإِنَّا هُوَ رَجُلٌ بِذَلِكَ إِنْ سَمِعَ كَلَامَهُ أَوْ بَلَغَهُ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَلَيْسَ لِلْبَيْعِ مَنْعِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ وَلَا بَلَغْهُ، فَلَا شُيُءَ لَهُ.“
ذکرہ فی نوازل البرزلي، و مثله فی المعيار.“

(لیکن اگر ایک آدمی نے اپنا سامان بیچنے کے لیے پیش کیا اور کہا کہ جو بھی

(۱) مجلة الفقه الاسلامي: عدد ۶/ جلد: ۹۸۰/۳

(۲) مجلة الفقه الاسلامي: عدد ۶/ جلد: ۹۸۰/۳

میرے پاس دس درہم لے کر آئے گا تو یہ چیز اس کی ہوگی، پس ایک شخص اس کے پاس دس درہم لے کر آیا تو اگر یہ شخص اس کا کلام سنا ہو یا اس کو اس کی بات پہنچی ہو تو یہ بیع لازم ہو گئی اور باائع کو نفع کرنے کا حق نہ ہو گا اور اگر اس نے اس کا کلام نہیں سناتھا اور نہ اس کی بات اس کو پہنچی تھی تو اسے کچھ نہ ملے گا یعنی یہ بیع نہیں ہوئی، اس مسئلے کو برزلی نے اپنی ”نوازل“ میں ذکر کیا ہے اور اسی جیسی بات معیار کتاب میں بھی ہے۔) (۱)

اس میں خطاب خاص کی جگہ خطاب عام ہے جو ہر کسی کے لیے عام ہے، اس کو ایجاد بمان کر باائع کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ قبول کے واقع ہونے کے بعد اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔
دوسرانظر یہ

اس سلسلے میں دوسرا نظر یہ ہے جس کو اکثر حضرات نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ محض اعلان و دعوت سے ایجاد متحقق نہیں ہوتا؛ کیوں کہ فقہاء جو لکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خریداری کی دعوت و ترغیب الگ چیز ہے اور ایجاد الگ چیز ہے، ایجاد تو اسی خاص شخص یا مخصوص لوگوں سے خطاب سے متحقق ہوتا ہے، لہذا صرف اس قدر بات سے کہ کوئی کمپنی اپنی اشیاء کا اعلان و دعوت دے اور اس کی تفصیلات بیان کر دے، ایجاد متحقق نہیں ہوتا؛ الیہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی صورت پائی جائے جس سے باائع کا انشاء عقد کا ارادہ معلوم ہوتا ہو۔

جمہور علماء کے نظریہ کی وضاحت

خلاصہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہاں دو الگ الگ صورتیں ہیں: ایک یہ کہ باائع کی جانب سے اشیاء و سامان کی پیشکش اور ان کی تفصیلات کو ویب سائیٹ پر ڈالنے سے محض اعلان و ترغیب مقصود ہو، اس صورت میں تو یہ جمہور علماء کے نزدیک ایجاد نہیں کہلاتے گا اور

(۱) حاشیۃ الدسوقي علی الشرح الكبير: ۲/۳

دوسری صورت یہ ہے کہ اس پیشش اور اعلان سے انشاء عقد (یعنی معاملہ کرنے) ہی اس کا مقصد ہو کہ اگر کوئی بھی اس اعلان و دعوت پر آئے اور اس کو قبول کر لے تو وہ محسن اسی اعلان کی بنیاد پر فروخت کر دینا چاہتا ہو، اس صورت میں یہ پیشش اور اعلان ”ایجاد“ کے حکم میں ہو گا۔ اور حضرات فقہا مالکیہ کے یہاں جو یہ جزئیہ ملتا ہے کہ دعوت عامہ بھی ایجاد کے حکم میں ہے، غالباً اس سے ایسی ہی صورت مراد ہے۔ لہذا جہاں انشاء عقد کا مقصد ہونا ظاہر ہو، اس میں اعلان عام کو بھی ایجاد سمجھا جاسکتا ہے۔

جیسے کہ الکٹرانک تجارت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالع کی جانب سے جو اعلان ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی انشاء عقد معلوم ہوتا ہے، لہذا اہم اسے زدیک انتہیت پر دی ہوئی تفصیلات بھی ایجاد ہی کے حکم میں ہیں؛ کیوں کہ یہاں ظاہر یہی ہے۔

الکٹرانک تجارت میں قبول کی صورت

اب رہایہ کہ ”الکٹرانک کاروبار“ میں قبول کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اولادیہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ الکٹرانک کاروبار دراصل دو گائیں میں کاروبار ہے، لہذا جب ایجاد کے بعد کسی بھی ذریعے سے دوسرا فریق اپنا قبول ظاہر کر دے گا، پس ہو جائے گی جیسے کتابت کے ذریعے پس کا حکم ہے۔

لہذا یہاں اگر خریدار اپنی رضا کا اظہار اور قبولیت کا پیغام خط سے یا ای میل سے یا فون سے یا میکس سے یا موبائل فون سے ظاہر کر دے گا تو وہ قبول شمار ہو جائے گا۔

اسی طرح اگر ویب سائیٹ پر جا کر اپنی پسندیدہ چیز کی خریداری کے لیے قبول پر لک کر دے گا تو وہ بھی قبول شمار ہو گا۔

شیخ محمد بن جبر الالفی (استاذ فقه، المعهد العالی للقضاء، الرياض) نے اپنی کتاب

”التعاقد الإلكتروني في ميزان الشرع الإسلامي“ میں لکھا ہے:

”وَالْقُبُولُ يَصْبَرُ بِأَيْةٍ طَرِيقَةٌ جَرِيَّةٌ الْعُرْفُ عَلَى اعْتِباَرِهَا قَبُولاً،“

كاللطف أو الإشارة، أو الكتابة، أو الرمز (الضغط على زر يحمل علامة معينة)، أو القبول الضمني بداخل الرقم السري لبطاقة الائتمان. إذا افترضنا هذا القبول بالإيجاب انعقد العقد بين الطرفين، وترتب عليه آثاره من التزام البائع بتسليم المبيع، والتزام المشتري بدفع الثمن.“

(قبول مكمل ہو جاتا ہے کسی بھی ایسے طریقے سے جو عرف میں قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے، جیسے لفظ یا اشارہ یا کتابت یا رمز یعنی ایسے نشان پر ملک کرنے جو متعین علامت کا حامل ہو، یا ضمنی قبول سے اس طرح کہ کریڈیٹ کارڈ کا مخفی نمبر داخل کیا جائے۔ جب یہ قبول ایجاد سے متصل ہو جائے تو طرفین میں عقد منعقد ہو جائے گا اور اس پر عقد کے آثار جیسے باعث پر بیع کی سپردگی اور خریدار پر ثمن کی ادائیگی، مرتب ہو جائیں گے۔) (۱)

لبته یہاں ایک بات یہ سمجھ لئی چاہیے کہ بعض دیب سائیکلوں میں معاملہ کا انعقاد ایک سے دو بار بٹن پر ملک کرنے کے بعد معتبر مانا جاتا ہے، ایسے سائیکلوں پر ایک بار بٹن پر ملک کرنے کے بعد دوبارہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس معاملے سے مطمئن ہیں؟ جب دوبارہ بھی آپ اس پر ملک کرتے ہیں تو وہ معاملہ منعقد مانا جاتا ہے۔ اس قسم کے دیب سائیکلوں پر ”قبول“ دوبار ملک کرنے کی صورت میں مانا جائے گا۔

اور بعض دیب ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ایک ہی بار بٹن ملک کرنے کو کافی سمجھا جاتا ہے، اس قسم کے دیب پر صرف ایک بار ملک کرنے ہی قبول مانا جائے گا۔

تیسرا اصول - ایجاد و قبول میں اتصال

عقد پیع کے اصول و ضوابط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایجاد و قبول میں اتصال پایا جائے کہ ایک جانب سے ایجاد ہوا اور دوسرا جانب سے علی الفور اس کو قبول کیا جائے۔

(۱) التعاقد الإلكتروني:

حضرات فقہا کے یہاں اس کو خیارِ مجلس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایجاد ب کے بعد قبول اسی مجلس میں ہو جانا چاہئے، اگر اسی مجلس میں قبول نہ کیا تو وہ عقد منعقد نہیں ہوا اور اگر مجلس ہی میں قبول کر لیا تو عقد لازم ہو گیا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ فقہاء نے صحت عقد کے لیے اتحادِ مجلس عقد کی شرط لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایجاد و قبول دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس شرط پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ "بدائع الصنائع" میں لکھتے ہیں:

"وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ اِتْحَادُ الْمَجَلِسِ بِأَنَّ كَانَ الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجَلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجَلِسُ لَا يَنْعَدِدُ حَتَّى لَوْ أُوجِبَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعُ فَقَامَ الْآخَرُ عَنِ الْمَجَلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَجَلِسِ ثُمَّ قَبِيلَ لَا يَنْعَدِدُ."

(اور ہی وہ شرط جو جائے عقد کی طرف لوٹی ہے، تو وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اتحادِ مجلس اس طرح کہ ایجاد و قبول دونوں ایک ہی جگہ واقع ہوں، پس اگر مجلس مختلف ہو جائے تو عقد منعقد نہ ہو گا؛ یہاں تک کہ اگر ایک نے پہلے کا ایجاد کیا اور دوسرا قبول کرنے سے پہلے مجلس سے کھڑا ہو گیا یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا جو اختلافِ مجلس کا موجب ہو پھر قبول کرے تو تو عقد منعقد نہ ہو گا۔ (۱))

اور "الفتاوى الهندية" میں ہے:

"وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجَلِسٍ وَاحِدٍ؛ حَتَّى لَا يَخْتَلِفَ الْمَجَلِسُ بِأَنَّ كَانَا حَاضِرِينَ، فَأُوجِبَ أَحَدُهُمَا،

(۱) بدائع الصنائع: ۳/۲۲۳

فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب
اختلاف المجلس ، بطل العقد .”

(انہی شرطوں میں سے ایک ایجاد و قبول کا ایک مجلس میں ہونا ہے؛ تاکہ مجلس مختلف نہ ہو، اس طرح کہ دونوں (عاقدين) حاضر ہوں اور ان میں سے ایک ایجاد کرے اور دوسرا قبول کرنے سے پہلے مجلس سے اٹھ جائے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اختلاف مجلس کا سبب ہو تو عقد باطل ہو جائے گا۔) (۱)

الصال ایجاد و قبول کی دو صورتیں
اور پھر ایجاد و قبول میں اتصال دو قسم پر ہے:
(۱) ایک یہ کہ عقد کرنے والے دونوں فریق مجلس میں حاضر ہوں اور ایک جانب سے ایجاد کے فوری بعد اسی مجلس میں دوسرا فریق اس کو قبول کر لے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ خریدنے پہنچنے والے دونوں فریق ایک ہی مجلس میں موجود نہ ہوں تو اتصال کی صورت یہ ہے کہ جب دوسرے فریق کو ایجاد غائبانہ طور پر پہنچ جیسے کسی شخص کے ذریعے یا خط سے پہنچے تو وہ اسی وقت اس کو قبول کر لے اور کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، یا میں نے خرید لیا، یا اس کا جواب خط کے ذریعے دیا۔

”البحر الرائق“ میں ”هدایۃ“ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وَ الْكِتَابُ كَالْخَطَابِ ، وَ كَذَا الْإِرْسَالُ حَتَّى اغْتَبَ مَجْلِسُ
بُلُوغِ الْكِتَابِ وَأَذَاءِ الرِّسَالَةِ . وَ صُورَةُ الْكِتَابِ أَنْ يَكُتبَ : أَمَا
بَعْدُ ! فَقَدْ بَعْتَ عَبْدِي فُلَانًا مِنْكَ بِكَذَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْكِتَابُ قَالَ
فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : اشْتَرَيْتُ ، تَمَ الْبَيْعُ بِيَنْهَمَا . وَ صُورَةُ

الْيَارْسَالِ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيَقُولُ الْبَايْعُ: بَعْثَتْ هَذَا مِنْ فُلَانٍ
الْغَائِبِ بِالْفِدْرَهِمِ، فَادْهَبْ يَا فُلَانُ، فَقُلْ لَهُ، فَلَهَبَ الرَّسُولُ،
فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَقَبِيلَ الْمُشْتَرِي فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. ”

(خط بھی خطاب کے شل ہے اور اسی طرح کسی کے ہاتھ پیغام بھیجنा بھی،
یہاں تک کہ خط کے پہنچنے اور پیغام رسانی کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور خط
کی صورت یہ ہے کہ یہ لکھدے کہ اما بعد میں نے میرے غلام فلاں کو اتنے
میں آپ کے ہاتھ پہنچ دیا، پس جب وہ خط اس کو پہنچا اور اس نے اسی مجلس میں
کہدیا کہ میں نے یہ خرید لیا تو یہ اس دونوں کے ماہین کمل ہو گئی اور پیغام
بھیجنے کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو قاصد بنا کر بھیجے اور باعث کہے کہ میں نے یہ
فلاں غائب شخص کے ہاتھ ایک ہزار درهم میں پہنچ دیا ہے، لہذا تم جاؤ اور اس کو
سناو، پس یہ شخص جائے اور اس کو یہ خبر سناوے اور خرید اسی مجلس میں اس کو
قبول کر لے۔) (۱)

اسی طرح ”درر الحکام“ شرح مجلة الأحكام میں ہے:
”وَالْكِتَابُ وَالرِّسَالَةُ كَالْحَطَابُ“ یعنی إذا كتب: أَمَّا بَعْدُ،
فَقَدْ بَعْتُكَ عَبْدِي فُلَانًا بِكَذَا، أَوْ قَالَ لِرَسُولِهِ: بَعْثَتْ هَذَا مِنْ
فُلَانَ الْغَائِبِ بِكَذَا، فَادْهَبْ وَأَخْبِرْهُ، فَوَصَلَ الْكِتَابُ إِلَى
الْمُكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ، فَقَالَ فِي مَجْلِسِ
بُلُوغِ الْكِتَابِ أَوِ الرِّسَالَةِ: اشْتَرَيْتُهُ بِهِ، أَوْ قِبِلْتُهُ، تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا؛
لَاَنَّ الْكِتَابَ مِنْ الْغَائِبِ كَالْحَطَابِ مِنْ الْحَاضِرِ، وَالرَّسُولُ مُعَزِّزٌ
وَسَفِيرٌ فِي كَلَامِ الْمُرْسَلِ.“

(خط اور پیغام بھیجننا خطاب کرنے کی طرح ہے، یعنی جب وہ لکھدے کہ اما بعد میں نے میرا فلاں غلام آپ کو اتنے میں نیچ دیا یا اپنے قاصد سے کہے کہ میں نے فلاں غائب شخص کو یہ اتنے میں نیچ دیا، لہذا جا کر اس کو خبر کر دے، پس وہ خط مکتوب الیہ تک پہنچ جائے اور قاصد مرسل الیہ تک خبر پہنچا دے اور وہ خط پہنچنے یا پیغام پہنچنے کی مجلس میں کہدے کہ میں نے خرید لیا یا قبول کر لیا تو پیغام مکمل ہو گئی؛ کیوں کہ غائب کی جانب سے خط حاضر سے خطاب کی طرح ہے اور قاصد اسی کی بات کہنے والا اور سفیر ہے، لہذا اس کا کلام بھیجنے والے کے کلام کی طرح ہے۔) (۱)

الکرٹ انک کاروبار میں اتحاد مجلس کی صورت

جب یہ معلوم ہوا کہ عقد کی صحت کے لیے یہ لازم ہے کہ ایجاد کے بعد قبول پایا جائے اور ان میں اتصال ہو، تو اسی کے مطابق الکرٹ انک تجارت میں بھی اگر قبول کرنے والے نے مجلس میں قبول کر لیا تو وہ عقد لازم ہو گیا، ورنہ لازم نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تو کوئی مجلس حصی طور پر نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر ہے، تو مجلس کا کیا مطلب ہو گا؟

اس سلسلے میں اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ مجلس سے مراد کوئی حصی مجلس ہونا ضروری نہیں؛ بل کہ دو غائب لوگوں کا معاملہ بھی جائز مانا گیا ہے، جیسا کہ اوپر گزرا لہذا مجلس سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں ایک فریق کی دوسرے فریق سے بات جاری ہو، خواہ وہ بات بال مشاهدہ ہو یا کتابت وغیرہ سے ہو، اس لیے یہاں بھی فون سے یا ویب پر جب معاملہ کرنا چاہے تو اس وقت منظوری کے بٹن پر کلک کرنا بھی مجلس ہی کے حکم میں ہے؛ کیوں کہ فقہاء کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کا مطلب نہیں کہ دونوں ایک ہی مقام پر جمع ہوں، بل کہ بعض صورتوں میں دونوں دو الگ الگ مقامات پر ہتے ہوئے بھی اتحاد مجلس کا تصور ہو

سکتا ہے، جیسے فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے خط سے ایجاد کیا تو جب وہ خط دوسرے فریق کو پہنچے اور وہ اسی مجلس میں قبول کر لے تو وہ بھی اتحاد مجلس ہی ہے؛ حالاں کہ یہاں دونوں الگ الگ مقامات پر ہیں؛ وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں ایک اسی مقام پر جمع ہوں تو یہ حقیقی اتحاد مجلس ہے اور دوسری صورت حکمی اتحاد مجلس کی ہے۔

اتحاد مجلس سے مراد زمانہ عقد ہے

لہذا بعض فقہاء اس سے یہ اخذ کیا کہ اتحاد مجلس سے مراد یہیں کہ حصی طور پر ایک جگہ دونوں فریق جمع ہوں، بل کہ اس سے مراد وہ وقت و زمانہ ہے جس میں طرفین کی اس سلسلے میں بات چیت جاری رہے۔

اسی لیے علامہ مصطفیٰ الزرقاء کی رائے یہ ہے کہ مجلس عقد سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں کار و باری بات چیت و معاملہ چلتا ہے۔ وہ اپنی کتاب ”شرح القانون المدني السوري“ میں لکھتے ہیں:

”المدة الزمنية التي تكون بعد الإيجاب، والظرفان مقبلان“

علی التعاقد دون إعراض من أحدهما“

(مجلس عقد وہ زمانی مدت ہے، جو ایجاد کے بعد ہوتی ہے، جب کہ

طرفین معاملہ کرنے کی جانب بغیر اعراض کے متوجہ و مائل ہوتے ہیں۔) (۱)

اور اسی کوفضیلۃ الشیخ وہب البیلی نے بھی اختیار کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اولاً شیخ الزرقاء کی رائے نقل کی ہے اور پھر اسی کو لیا ہے۔ (۲)

اسی طرح علامے قانون میں سے شیخ عبدالرزاق السنہوری نے ”الوسیط فی

شرح القانون المدني“ میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں:

(۱) بحوالہ: إجراء العقود بوسائل الحديثة: ۳۹

(۲) مجلة الفقه الإسلامي: عدد ۸۸، ۱۴۲۶ھ

” هو المكان الذي يضم المتعاقدين ، وليس الملحوظ فيه المعنى المادي للمكان ؛ بل الملحوظ فيه هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان مشغولين بالتعاقد دون أن يصر فهما عن ذلك شاغل آخر .“

(مجلس وہ مکان ہے جو متعاقدين کو جمع کرے؛ لیکن اس میں مکان کا مادی مفہوم ملحوظ نہیں ہے؛ بل کہ اس میں ملحوظ وہ وقت ہے جس میں متعاقدين معاملہ کرنے میں اس طرح مشغول رہیں کہ کوئی دوسرا شغل اس سے ان کو نہ پھیرے۔) (۱)

لہذا ”الکٹرانک بیع و شراء“ میں قبول کے لیے مجلس عقد وہ زمانہ ہے جس میں دونوں فریق معاملے کی جانب متوجہ ہیں، لہذا جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک قبول کر لینے کی گنجائش ہوگی اور جب یہ لوگ معاملہ چھوڑ کر بات ختم کر دیں گے تو مجلس بھی ختم کر گھبی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اشکال کا حل

مگر ”الکٹرانک کاروبار“ میں اس سلسلے میں ایک پیچیدگی آتی ہے، وہ یہ کہ بعض معاملات میں ایجاد و قبول ایک ہی زمانے میں بھی متحقق نہیں ہو سکتے؛ بل کہ اس سلسلے میں ممکن ہے کہ ایجاد کے بعد دوسرا فریق اس کو قبول کرنے میں کچھ گھنٹوں یا دنوں کا فصل کر دے۔ مثلاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدنی تھی، باع نے ایجاد کیا اور اس کا جواب دینے کے لیے چند گھنٹوں یا دنوں کا وقت بھی دیا تو قبول کرنے والا علی الفور قبول نہیں کرتا؛ بل کہ غور و فکر کے بعد کسی دوسری مجلس میں اس کو قبول کرتا ہے۔

اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باع قبول کرنے کی کوئی مدت متعین نہیں کرتا؛ بل کہ صرف ایجاد کرتا ہے، یعنی یعنی کی نیت سے سامان وغیرہ پیش کرتا اور ان کی قیمت بتاتا ہے

(۱) الوسيط في شرح القانون المدني للشيخ السنہوري: ۲۳۷/۱

اور دوسرا فریق بعد التالیل اور غور و فکر کے بعد اس کو قبول کرتا ہے۔
اور یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں قبول اسی زمانے میں تحقق نہیں ہوتا جو باعث
کے ایجاد کا زمانہ ہے؛ بلکہ اس کے بعد حسب صواب دید کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی
قبول تحقق ہوتا ہے؛ کیوں کہ بسا اوقات آدمی کو غور و فکر کے لیے وقت فرست کا انتظار ہوتا ہے
اور وہ علی الفور میسر نہیں آتا، اس لیے وہ بعد میں اس پر توجہ دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس
صورت میں یہ الکڑ انک تجارت جائز ہوگی؟

اس سلسلے میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ طرفین کے مجلس میں حاضر ہونے کی صورت میں تو
یہ بات جعل جاتی ہے کہ مجلس میں ایجاد و قبول ہو جائے؛ لیکن طرفین کے عاشر ہونے کی
صورت میں یہاں مشکلات پیش آتی ہیں، لہذا طرفین کے عاشر ہونے کی صورت میں
مجلس صرف اسی قدر زمانے کو قرار دینا جس میں طرفین معاملہ کریں، صعوبت کا باعث ہے،
اس لیے ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مجلس اس زمانے کے بعد بھی باقی سمجھی جانی چاہیے،
جس میں فریقین معاملے کے بارے میں گفتگو میں مشغول ہیں اور مجلس اس وقت تک تسلیم کی
جانی چاہیے، جس کو عرف میں اتحاد سمجھا جائے۔ ہاں اگر اس قدر تاخیر کیا کہ عرف تجارت میں
اس کو عرض سمجھا جاتا ہو تو اس کو قبل لحاظ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔

اس رائے کے حاطین نے شیخ الاسلام خواہزادہ کی مسوط کے حوالے سے ان کی ایک
عبارت سے استدلال کیا ہے، جس میں خطاب اور کتاب کے مابین اتحاد مجلس کے بارے
میں فرق کو ظوہر کھا گیا ہے اور خطاب کی صورت میں تو علی الفور قبول کو لازم کہا گیا ہے؛ جب
کہ خط و کتاب کی صورت میں گنجائش دی گئی ہے۔

شیخ الاسلام خواہزادہ کی عبارت شایی اور ابن نجیم نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے:
 ”وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُواهْرَ زَادَهُ فِي مَبْسُوطِهِ الْكِتَابَ
 وَالْخَطَابُ سَوَاءٌ إِلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا“

فَخَاطَهَا بِالنِّكَاحِ ، فَلَمْ تُجِبْ فِي مَجْلِسِ الْخُطَابِ ، ثُمَّ أَجَابَتْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصُحُّ ، وَفِي الْكِتَابِ إِذَا بَلَغَهَا وَقْرَأَتِ الْكِتَابَ وَلَمْ تُزَوْجْ نَفْسَهَا مِنْهُ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي قَرَأَتِ الْكِتَابَ فِيهِ ، ثُمَّ زُوِّجَتْ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بَيْنَ يَدِي الشُّهُودِ ، وَقَدْ سَمِعُوا كَلَامَهَا وَمَا فِي الْكِتَابِ يَصُحُّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الْعَائِبَ إِنَّمَا صَارَ خَاطِبًا لَهَا بِالْكِتَابِ ، وَالْكِتَابُ بَاقٍ فِي الْمَجْلِسِ الثَّانِي فَصَارَ بَقاءُ الْكِتَابِ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَدْ سَمِعَ الشُّهُودُ مَا فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ الثَّانِي بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَكُورُ الْخُطَابُ مِنْ الْحَاضِرِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ حَاضِرًا فَإِنَّمَا صَارَ خَاطِبًا لَهَا بِالْكَلَامِ ، وَمَا وُجِدَ مِنَ الْكَلَامِ لَا يَبْقَى إِلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا سَمِعَ الشُّهُودُ فِي الْمَجْلِسِ الثَّانِي أَحَدَ شَطْرَيِ الْعَقْدِ .”

(شیخ الاسلام خواہزادہ نے اپنی ”مبسوط“ میں ذکر کیا ہے کہ خط اور خطاب دونوں برابر ہیں، سو ایک صورت کے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص حاضر تھا اور اس نے عورت کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے مجلس میں اس کو قبول نہیں کیا، پھر کسی دوسری مجلس میں اس نے قبول کیا، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوا اور خط کی صورت میں جب خط عورت کو پہنچا اور اس نے اس کو پڑھا، لیکن اسی مجلس میں جس میں اس نے خط پڑھاتھا، اس آدمی سے اس نے شادی نہیں کی، پھر دوسری مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں اس نے اپنا نکاح اس شخص سے کر لیا اور ان گواہوں نے اس عورت کا کلام اور خط کا مضمون سن لیا تو یہ نکاح صحیح ہو گیا؛ کیوں کہ غائب شخص نے عورت کو پیغام خط سے دیا ہے اور خط دوسری

مجلس تک بھی باقی ہے بلہذا خط کا دوسری مجلس تک باقی رہنا جبکہ گواہوں نے اس خط کا مضمون دوسری مجلس میں سن لیا ہو، یہ ایسا ہے جیسے حاضر شخص کی جانب سے مجلس میں دوسری مرتبہ خطاب کیا گیا ہو، لیکن اگر یہ پیغام دینے والا حاضر ہو تو یہ عورت کو اپنے کلام سے پیغام دینے والا ہے اور یہ کلام دوسری مجلس تک باقی نہیں رہتا اور گواہ جو قول والا کلام سنتے ہیں وہ عقد کا ایک حصہ ہے۔^(۱)

حاصل اس کا یہ ہے کہ خط کی صورت میں خط پہنچنے کی مجلس ہی میں پیغام نکاح کو قول کرنا ضروری نہیں؛ بل کہ دوسری مجلس میں جہاں گواہ موجود ہوں اور وہ لوگ خط کا مضمون جو کہ ایجاد ہے اور عورت کا قول دونوں کوئی تو یہ بھی جائز ہے اور اس سے نکاح ہو جاتا ہے، کیوں کہ خط جب دوسری مجلس تک باقی ہے تو اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی حاضر مجلس نے پیغام نکاح دیا اور عورت نے اول وہلے میں اس کو قبول نہیں کیا، بل کہ اعراض کیا؛ مگر پیغام دینے والے نے دوبارہ پیغام دیا اور عورت نے اس دوسری دفعہ کے پیغام کو قبول کر لیا، تو یہ نکاح صحیح ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خطاب اور خط اگرچہ کہ اکثر مسائل میں برابر ہیں؛ مگر اس بارے میں ان دونوں میں فرق ہے، کہ خطاب میں تو اسی وقت قول کر لینا لازم ہے، لیکن خط کی صورت میں دوسری مجلس میں قبول کرنے کی کنجائش ہے۔

اگرچہ کہ علامہ خواہر زادہ کی اس بات کو علامہ ابن عابدین شامی نے ظاہر الروایۃ کے خلاف قرار دیا ہے، تاہم بعض علمانے اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں راجح سمجھا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے بھی اسی کو موجودہ دور کے حالات کے لحاظ سے راجح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں:

”اور بالخصوص موجودہ حالات میں لوگوں کے تعامل کا طریق دیکھتے

(۱) شامی: ۵۱۳/۲، البحر الواقع: ۲۹۱/۵

ہوئے، یہی موقف اسلام معلوم ہوتا ہے؛ کیوں کہ قدیم دور میں خط ایک شخص لے کر مکتوب الیہ تک جاتا اور اس کو پہنچاتا تھا اور اکثر حالات میں اس کا جواب لے کر خط لکھنے والے کو دیتا تھا؛ لیکن ہمارے اس دور میں خط پوسٹ سے جاتا ہے یا ٹیکس سے یا فیکس سے اور یہاں ان صورتوں میں کوئی اس خط کو بیجانے والا نہیں ہوتا، جو جواب کا انتظار کر لے اور جواب لیتا آئے، اسی لیے شیخ الاسلام خواہ زادہ کا موقف ہی عملی موقف ہے اور جب تک کسی نص قرآن و سنت سے تضاد و تصادم نہ ہو، اس موقف کو اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

اسی رائے کو بعض علمائے عرب جیسے شیخ علی الحفیف نے اختیار کیا ہے اور انہی کی اتباع میں شیخ ابراہیم کافی دو نفر نے بھی لیا ہے۔ (۲)

خلاصہ یہ ہوا کہ الکرمانک کاروبار میں ایک جانب سے ایجاد کے بعد دوسری جانب سے قبول اسی وقت ہو جانا لازم نہیں؛ بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد کسی اور وقت بھی اپنے قبول کا اظہار و اعلان کر سکتا ہے۔

اتحاد مجلس کا معیار کیا ہوگا؟

پھر اگر موجب (ایجاد کرنے والے) نے قبول کی کوئی مدت مقرر کی ہو تو اس مدت تک قبول کو معتبر مانا جائے گا اور جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو اب قبول کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اور اگر موجب نے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے تو مدت کی تحدید عرف کی بنابر کی جائے گی؛ کیوں کہ اگر کوئی مدت ہی مقرر نہ کی جائے اور یہ کہا جائے کہ قبول کرنے والا ایجاد کے بعد کبھی بھی قبول کا اعلان کر سکتا ہے تو اس میں دوسرے فریق کا ضرر عظیم ہے، لہذا ظاہر یہ ہے

(۱) فقه المیوں: ۳۷۸-۳۸۰

(۲) دیکھو: مجلة الفقه الإسلامي: عدد: ۱۰۰/۲/۲

کاس کو عرف تجارت کے حوالے کیا جائے۔

شیخ ماجد محمد سلیمان ابا الحیل نے اپنی کتاب "العقد الالکترونی" میں لکھا ہے:
 "أما إذا كان التعاقد غير مباشر أي غير لحظي ، فإن
 مجلس العقد يبدأ من لحظة اطلاع القابل على المعرفة
 عليه، سواء كان منتج أو خدمة ويستمر حتى تنتهي المدة
 المحددة إن وجدت ، وإلا رجع في ذلك إلى الأعراف ."

(لیکن اگر معاملہ مباشرہ ہو یعنی علی الفور نہ ہو تو مجلس عقد شروع ہو گی اس
 وقت سے جب کہ قبول کرنے والا اس پر پیش کی گئی چیز پر مطلع ہو خواہ وہ کوئی
 تیار کردہ چیز ہو یا کوئی خدمت یعنی سرویس ہو اور یہ مدت برقرار ہے گی اس
 مدت تک جو مقرر کی گئی ہو اگر اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہو، ورنہ اس سلسلے
 میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا) (۱)

مگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی عرف قائم نہیں ہو سکا ہے۔
 اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے "فقہ المیوع" میں اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے
 امام قرآنی اور امام نووی کی عبارات سے یہ دکھایا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک قبول کی مدت
 طویل ہونے اور قصیر ہونے میں فرق کیا گیا ہے، اگر طویل مدت تک قبول نہ کیا تو اس کا حق
 ساقط ہو جائے گا اور اگر مختصر مدت تک سکوت کیا تو اس کا حق ساقط نہ ہو گا۔

پھر اخیر میں وہ لکھتے ہیں:

" و إن هذه المدة المتعارفة يمكن أن تختلف من مبيع إلى آخر . فمدة القبول في المبيعات التي يتسرّع إليها الفساد ، كالفواكه الطازجة والخضروات والبقول أقل بالنسبة إلى

(۱) العقد الالکترونی: ۲۳

المبيعات التي لا تفسد بسرعة وتكون مدة القبول في المبيعات
الضخمة والكميات الكبيرة أكثر من المبيعات العادية؛ والعمدة
في ذلك هو العرف الذي يلجأ إليه القضاة.“

(یہ مدت متعارفہ ممکن ہے کہ ایک قسم کی میج سے دوسرا قسم کی میج میں مختلف
ہو، پس وہ میج جس میں جلدی سے فساد و خرابی آجائی ہے جیسے تازہ پھل اور
سبزیاں تو ان کی مدت قبول ایسے میج کی نسبت کم ہوگی جن میں جلدی سے
خرابی نہیں آتی اور بڑی بڑی چیزوں اور بڑی مقدار کی چیزوں کی مدت قبول
عام قسم کی چیزوں کے لحاظ سے زیادہ ہوگی۔ اور اس بارے میں اعتماد عرف پر
ہو گا جس کی جانب قضاء میں رجوع کیا جاتا ہے۔) (۱)

احقر کی بھی بھی رائے ہے کہ اس مسئلے کا مدار عرف پر ہونا چاہئے، چنانچہ متعدد
فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ مجلس کے بدل جانے اور عاقدین کے جدا ہونے کے
سلسلے میں مدار عرف ہے۔

علامہ شمس الدین ابن قدامة الحسنه میں نے ”الشرح الكبير“ میں لکھا ہے:
”والمرجع في التفرق إلى عرف الناس و عاداتهم؛ لأن
الشارع عليه السلام علق عليه حكماً، ولم يبيّنه، فدلّ على أنه
أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراء.“

(عاقدین کے جدا ہونے میں مرجع لوگوں کا عرف اور عادت ہے؛
کیوں کہ شارع علیہ السلام نے جدا ہونے پر حکم کو معلق کیا؛ مگر اس کی
وضاحت نہیں بیان کی، اس سے معلوم ہوا کہ شارع کا مقصد اس سے وہ چیز ہے
جو لوگوں میں معروف ہو، جس طرح قبض اور احراء میں عرف کا لحاظ ہے۔) (۲)

(۱) فقه البيوع: ۵۵-۵۶

(۲) الشرح الكبير: ۲۳/۳

اسی طرح علامہ موقن الدین بن قدامة نے ”المعنى“، میں لکھا ہے:

”وَالْمَرْجِعُ فِي التَّفَرْقِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ ، فِيمَا يَعْدُونَهُ تَفْرِقًا ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ عَلَقَ عَلَيْهِ حُكْمًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ ، فَدَلِيلُكَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا يَعْرَفُهُ النَّاسُ ، كَالْقَبْضُ ، وَالْأَحْرَازُ.“

(عاقدین کے جدا ہونے میں مر جو لوگوں کا عرف اور عادت ہے، ان امور میں کہ وہ اس کو جدا لی شمار کرتے ہیں؛ کیوں کہ شارع علیہ السلام نے جدا ہونے پر حکم کو معلق کیا؛ مگر اس کیوضاحت نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ شارع کا مقصد اس سے وہ چیز ہے جو لوگوں میں معروف ہو، جس طرح قبض اور احراز میں عرف کا لحاظ ہے۔) (۱)

اسی طرح المبدع اور شرح الزرکشی وغیرہ میں بھی ہے۔ (۲)
اور عرف ہی سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیع کی الگ الگ نوعیت و حیثیت کی وجہ سے ان کی مدت قبول بھی مختلف ہو جاتی ہے۔

چوتھا اصول - قبولیت کا علم

اس ضمن میں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبول کرنے والے کے قبول کر لینے کا علم دوسرا فریق کو ہونا ضروری ہے؟
اس حوالے سے دنیا میں راجح قوانین کے اندر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ دکتور محمد عقلۃ الا برائیم نے اپنی کتاب ”حکم إجراء العقود بواسطہ الاتصال الحدیثة“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں چار نظریات جاری ہیں:

(۱) المعنی لابن قدامة: ۳/۷

(۲) دیکھو: المبدع شرح المعنی: ۳/۷، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی: ۷/۲

(۱) نظریہ اعلان: جس کے مطابق قبول کرنے والا اپنی جگہ پر ایجاد بک قول کر لے تو عقد لازم ہو جاتا ہے۔

(۲) نظریہ تصریح: جس کے مطابق قبول کرنے والے پر لازم ہے کہ اپنی قبولیت کا اظہار خط، ای میل یا کسی شخص کے ذریعہ پہنچ دے۔ اس کارروائی کے بعد عقد لازم ہو جاتا ہے۔

(۳) نظریہ اسلام: جس کے مطابق شخص قبول کا بھید دینا کافی نہیں، بل کہ دوسرے فریق کو وہ خط یا ای میل پہنچ جانا بھی لازم ہے، جب اس کو پہنچ جائے گا تو قبول لازم ہو گا۔

(۴) نظریہ علم بالقول: جس میں یہ بھی لازم ہے کہ وہ شخص اس قبول کا علم بھی پالے، یعنی وہ خط یا ای میل پڑھ لے تا کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے قبول کر لیا ہے۔ (۱)

لیکن عام طور پر فقہاءِ اسلام نے جو لکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبول کرنے کا علم دوسرے فریق کو ہونا لازم نہیں ہے؛ بل کہ قبول کرتے ہی، عقد مکمل ہو جاتا ہے، خواہ قبول کرنے کا علم ایجاد بکرنے والے کو ہو یا نہ ہو۔

”الموسوعة الفقهية“ میں لکھا ہے:

”وَ لَا يُشْرَطُ فِي حَالَةِ اِنْعِقَادِ الْعَقْدِ بَيْنَ الْغَائِبَيْنِ عِلْمُ الْمُوْجِبِ بِقَبْوُلِ الْقَابِلِ ، فَعِيَارَاتُ الْفُقَهَاءِ صَرِيقَةٌ بِأَنَّ الْعَقْدَ يَحْصُلُ بِسُجْرَدِ قَبْوُلِ الْقَابِلِ فِي الْمَجْلِسِ .“

(دو غائب لوگوں کے مابین عقد کے منعقد ہونے کی حالت میں ایجاد کرنے والے کا قبول قبل کو جاننا شرط نہیں، پس فقہاء کی عبارات صریح ہیں کہ عقد شخص قبول کرنے والے کے مجلس میں قبول کر لینے سے منعقد ہو جاتا ہے۔ (۲)
لیکن بعض قریبی دور کے اور موجودہ دور کے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ فریق ثانی کے قبول کا علم

(۱) حکم اجراء العقود: ۸۷-۸۸

(۲) الموسوعة الفقهية: ۲۱۸/۳۰

فریق اول یعنی موجب کو ہونا چاہئے، اسی وقت یہ عقد تام والا زم ہوگا۔ اگر اسے قبول کا علم نہ ہوگا تو عقد لازم نہ ہوگا۔

ماہر قانون دکتور عبدالرزاق اسمہوری نے اسی کو اپنیا ہے، وہ اپنی کتاب ”مصادر الحق فی الفقه الاسلامی“ میں بالصراحت لکھتے ہیں:

”ونقول: إن منطق القاعدة التي تقول بوجوب سماع الموجب القبول في التعاقد بين حاضرين تقضي القول بوجوب علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين. والسماع في حالة حضور الموجب يقابله العلم في حالة غيابه.“

(ہم کہتے ہیں کہ اس قاعدے کی منطق جو یہ کہتا ہے کہ ایجاد کرنے والے کا قبول کو سننا لازم ہے، جب کہ دو حاضر لوگوں کے درمیان معاملہ ہو، یہی قاعدہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ایجاد کرنے والے کا قبول کو جانا بھی لازم کہا جائے، جب کہ دو غائبوں میں معاملہ ہو رہا ہو اور ایجاد کرنے والے کے حاضر ہونے کی صورت میں سامع، اس کے عاسب ہونے کی صورت میں علم کے مقابل ہے۔ (۱)

شیخ وہبہ الرحمن اپنی بحث ”إجراءات العقود بالآلات الاتصال الحديثة“ میں لکھتے ہیں:

”وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين الغائبين بسبب تقديم وسائل الاتصال الحديثة و تعدد المعاملات ، و تحقيقاً لاستقرار التعامل و منع إيقاع الموجب في الفلق و تمكيناً من إثبات العقد وإلزام القابل ، فإن جهل الموجب بالقبول يوقعه في حرج شديد .“

(۱) مصادر الحق: ۲۱/۳

(میرا خیال ہے کہ ایجاد کرنے والے کے لحاظ سے قبولیت کے علم کی ضرورت کے قول کو لیا جائے جبکہ دو غائب لوگوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہو؛ اس وجہ سے کئے وسائل ابلاغ و اصال میں ترقی اور معاملات میں پیچیدگی ہے اور اس وجہ سے کہ آپسی معاملات کو برقرار رکھا جاسکے اور ایجاد کرنے والے کو پریشانی میں ڈالنے سے بچایا جاسکے اور اس وجہ سے کہ عقد کو ثابت قرار دیا جاسکے اور قبول کرنے والے پر معاملہ کو لازم ٹھیک ریا جاسکے، کیوں کہ ایجاد کرنے والے کا قبولیت سے جالیں ہوں اس کو شدید حرج میں بٹلا کرتے ہے۔^(۱))

اس سلسلے میں مولانا نقی عثمانی دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ حضرات فقہاء نے جو لکھا ہے کہ صرف اعلان و اظہار قبول سے ہی عقد لازم ہو جاتا ہے، یہ لحاظ دیانت ہے؛ لہذا جو اظہار قبول کر دے گا، اس کے حق میں بیع لازم ہو جائے گی؛ لیکن قضاء موجب کے حق میں یہ لازم نہ ہوگا، جب تک کہ وہ قبول کو پا کر اس کا علم نہ پائے۔^(۲))

پانچواں اصول - شمن کی ادائیگی

کاروبار میں جب ایجاد و قبول تحقیق ہو جائے تو خریدار پر لازم ہے کہ وہ بیع کا شمن (قیمت) ادا کرے اور بائع پر لازم ہے کہ وہ بیع (خریدی ہوئی چیز) اس کے سپرد کر دے۔

الکٹرانک کاروبار میں شمن کی ادائیگی کے طریقے

لہذا الکٹرانک کاروبار میں بھی لازم ہے کہ قیمت ادا کی جائے؛ مگر سوال یہ ہے کہ الکٹرانک کاروبار میں قیمت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ کہ وہ طریقہ معترض بھی ہے یا نہیں؟ اور اس سے کیا شمن پر قبضہ تحقیق ہو جائے گا؟

یہاں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ عصر حاضر میں معاملات کی دنیا میں جوانقلابات و تغیرات فہما ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں الکٹرانک کاروبار میں شمن کی ادائیگی کے متعدد طریقے رائج ہوئے ہیں۔

(۱) مجلة الفقه الاسلامي: عدد: ۸۸۹ / ۲۶

(۲) فقه البيوع: ۲۲۱

ایک طریقہ شمن کی ادائیگی کا یہ چلا ہوا ہے کہ اس میں "الکٹرانک نقود" یعنی (Electronic Money) کا استعمال کیا جاتا ہے اور آجکل اس کے لیے Digital money (Digital cash) اور (Electronic cash) کی تعبیر بھی استعمال کی جاتی ہے۔

اور اس کے لیے الکٹرانک چیک، ماسٹر کارڈ اور دینا کارڈ، اسماڑ کارڈ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے والوں میں سے ہر ایک کے پاس اپنا ایک (User ID) اور (Password) ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ الکٹرانک منی سے ادائیگی کر سکتا ہے۔

اسی طرح آج کل چیک، ڈرافٹ، کریڈٹ کارڈ، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے رقم کی منتقلی کے ذریعے کاروبار و معاملات کرنے کا طریقہ بھی رانگ ہے۔ چنانچہ لوگ آج زیادہ تر اپنے کاروبار میں ان طریقوں سے شمن کی ادائیگی کرتے ہیں اور بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اس کا لیئن دین جاری ہے۔

لہذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طریقوں سے شمن کی ادائیگی کرنے سے کیا وہ قبضہ مانا جائے گا، اگر یہ قبضہ شمار ہوتا ہے تو کیا بعیض الصرف میں بھی بھی صورت اپنائی جاسکتی ہے یا صرف عام کاروبار ہی میں ان کو اپنایا جا سکتا ہے؟ اس اہم سوال کے جواب میں دور حاضر کے علمائے فقہ کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا ہم یہاں اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔

(۱) بینک اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی کا حکم

اگر کوئی بینک اکاؤنٹ سے رقم کی ادائیگی کرے، اس طرح کہ خریدار اپنے بینک سے بائع (بینچنے والے) کے بینک کو اس کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دے جس کو (Bank Transfer) کہتے ہیں تو اس صورت میں سبھی حضرات علماء کے نزدیک قبضہ تحقق ہو جائے گا۔

شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے ”فقہ البيوع“ میں لکھا ہے:

”ربما يقع تسليم النقود عن طريق التحويل المصرفي و ذلك بأن يكون لزيد رصيد في حسابه الجاري لدى بنك ألف ، ولعمرو رصيد في حسابه الجاري لدى بنك ب ، فيأمر زيد بنك ألف أن يحول مبلغاً إلى رصيد عمرو في بنك ب . فحينما يدخل المبلغ في رصيد عمرو في بنك ب ، يعتبر عمرو قابضاً لتلك النقود .“

(بعض اوقات نقدی کی ادائیگی بینک ٹرانسفر کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ اس طرح کہ زید کا اکاؤنٹ کرنٹ کھاتے میں بینک (الف) کے پاس ہو اور عمرو کا کرنٹ اکاؤنٹ بینک (ب) میں ہو اور زید بینک الف کو آڈر دے کہ اتنی رقم بینک (ب) میں عمرو کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے، پس جب یہ مبلغ رقم عمرو کی اکاؤنٹ میں داخل ہو جائے تو عمرو کو اس رقم پر قابض مانا جائے گا۔) (۱)

بینک ٹرانسفر کی تکلیف فقہی میں مختلف آراء

البتہ اس میں علمائے عصر نے اختلاف کیا ہے کہ تحويل مصرفي (بینک اکاؤنٹ سے رقم منتقلی) کی تکلیف فقہی کیا ہے؟

(۱) بہت سے علمائے اس کو ”سفتح“ یا اس کے مشابہ قرار دیا ہے اور سفتح کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو اپنی رقم بطور قرض دے؛ تاکہ وہ دوسرے شہر میں اس کے کسی دوست یا متعلق کو وہ رقم دے دے؛ تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔

مثلاً زید کے پاس ایک شہر میں اس کا اپنا مال تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مال ایک دوسرے شہر لے جاؤں، مگر اس کو خوف تھا کہ راستے میں کہیں کوئی خطرہ نہ پیش آجائے جیسے ڈاکوؤں یا

(۱) فقه البيوع: ۲۳۱/۱

چوروں کا ذر تھایا کسی اور چیز کا، لہذا اس نے کسی تاجر یا مسافر کو اپنا مال دیا کہ اس کو فلاں شہر میں فلاں کے پاس پہنچا دے یا لینے والا ایک خط اپنے نائب یادوست وغیرہ کے نام لکھ کر دے دے کہ خط لانے والے کو اتنا مال دے دیا جائے، اس طرح اس کا یہ مال وہاں پہنچنے جائے گا اور خطرات سے بھی اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔

اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں عام طور پر عالم اس طرف گئے ہیں کہ اگر اس معاملے میں بطور شرط یہ بات طے ہو کہ اس رقم کو دوسرے شہر میں ادا کرے تو یہ جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ اور دوسرے شہر میں ادا نگی کی شرط پر اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کی حقیقت قرض ہے اور قرض میں کسی طرح کافی نفع حاصل کرنا ناجائز ہے اور یہاں قرض دینے والے کو راستے کے خطرات سے امن کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لہذا شرط کے ساتھ یہ معاملہ ناجائز ہے اور بلا شرط ہو تو جائز ہے؛ لیکن چوں کہ بعض حضرات سے اس سلسلے میں جواز بھی منقول ہے تو یہ حضرات بینک ٹرانسفر کو سفتیجہ کا حکم دیتے ہیں۔ (۱)

(۲) اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حوالے کے حکم میں ہے۔ اور حوالہ کی تعریف میں اگرچہ فقہاء کا اختلاف ہے، تاہم امام ابو یوسف کا قول اکثر نے اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے:

”الحوالة هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة.“

(دین کا ایک شخص کے ذمہ سے دوسرے کی جانب منتقل کر دینا۔) (۲)

اور شافع نے بھی اسی طرح کی تعریف کی ہے:

”هي عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتطلق على

انتقاله من ذمة إلى أخرى .“

(۱) الحوالة والسفتجة بين الدراسة والتطبيق: ۱۸۳

(۲) مجمع الأئمہ في شرح ملتقى الأبحو: ۱۳۶/۲، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: الزیلیعی: ۱/۷۱، البحر الرائق شرح کنز الدقائق: ابن نجمیم: ۲۲۲/۲

(یہ ایک عقد ہے جو دین کو ایک ذمہ سے دوسرا ذمہ کی جانب منتقل کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور یہ دین کو ایک ذمہ سے دوسرا ذمہ کی جانب منتقل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے) (۱)

اور حوالے میں تین اطراف ہوتے ہیں: ایک محیل (جو اپنا ذمہ دوسرا کے حوالے کرتا ہے اور وہ دراصل قرض دار ہے) دوسرا قتال (جس کا قرض ہے اور اس کو ادا کرنا مقصود ہے) اور تیسرا تحالف علیہ (وہ جس کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ قرض میرے ذمہ لیتا ہوں) جو حضرات اس ”بینک ٹرانسفر“ کو حوالہ قرار دیتے ہیں، وہ رقم ٹرانسفر کرنے والے کو محیل اور جس کے نام ٹرانسفر کیا جانا ہے، اس کو تحالف اور بینک کو تحالف علیہ کے درجے میں مانتے ہیں۔

(۲) علمائے معاصرین میں سے بہت سے حضرات نے اس معاملے کی تکمیف نقیبی میں یہ کہا ہے کہ یہ ”وکالت“ ہے اور وکالت کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے:

”کل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به.“

(ہر ایسا عقد ہے جس کو انسان خود سے انجام دے سکتا ہے اس میں یہ بھی جائز ہے کہ دوسرا کو اپنا قائم مقام بنادے۔) (۲)

اور بعض حضرات نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے:

”إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.“

(دوسرا شخص کو کسی جائز و معلوم کام میں تصرف کرنے کے لیے خود کا قائم مقام بنادینا۔) (۳)

(۱) شرح روض الطالب من أنسى المطالب: أبو زكريا الأنصاري: ۲۳۰/۳، مغني المحتاج: ۲۵۱/۲، حاشية الشربيني: ۹۲/۲

(۲) مختصر القدوري: ۱۱۵، هداية: ۱۳۶/۳

(۳) دیکھو: البحر الرائق: ۷/۲۲۵، الدر المختار مع الشامي: ۵۱۰/۵

ای طرح یہاں ایک شخص اپنا کام بینک کے ذریعہ کرا رہا ہے، لہذا جو شخص رقم بھیجنما چاہتا ہے وہ موگل ہے اور بینک جو اس کام کو انجام دیتا ہے وہ اس کا دکیل ہے۔

(۲) بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ دراصل اجارہ کا ہے کہ رقم بھیجنے والا اپنی رقم بھیجنے کے لیے بینک کو مستاجر ہوتا ہے، لہذا رقم بھیجنے والا اجیر ہے اور بینک اس کا مستاجر جو متعلق شخص کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا کام انجام دیتا ہے اور اس کام پر اجرت لیتا ہے۔

ایک اشکال کا جواب

مگر ”بینک ٹرانسفر“ کے سلسلے میں پائے جانے والے ان تمام نظریات میں سے ہر ایک کے بارے میں فقیہ نظرے کچھ نہ کچھ اشکال پایا جاتا ہے، اس لیے بہت سے حضرات علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ مکمل طور پر مذکورہ نظریات میں سے کسی پر بھی منطبق نہیں ہوتا، اس لیے یہ معاملہ متعدد معاملات سے مرکب ہے، کچھ سفتحہ سے، کچھ وکالت سے، کچھ حوالہ سے، لہذا یہ معاملہ ان سب سے مرکب ہے۔

چنانچہ اس نظریے کو متعدد حضرات نے اختیار کیا ہے، ان میں سے شیخ مصطفیٰ الزرقاء اور دکتور ابراهیم عبدالحمید ابراہیم سلامۃ اور دکتور جمال عطیہ ہیں جو ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں اس موضوع پر کام کرنے اور بحث تیار کرنے والے ہیں اور انہی حضرات کی تحقیق کو سعودی عرب کے علمائی معتبر تنظیم ”هیئتہ کبار العلماء“ نے اختیار کیا ہے اور ”مجلة البحوث الإسلامية“ نے بھی اسی کو اختیار کرتے ہوئے اس کو شائع کیا ہے، اس بحث کے اخیر میں جو نتیجہ و خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”والنتيجة التي تستخلص من كل ما سبق من كلام عن التحويلات المصرفية اليوم هي: أن التحويل المصرفى أو البريدى عملية مرکبة من معاملتين أو أكثر ، وهو عقد حدیث، بمعنى: أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب“

فی العهود السابقة، ولم يدل دلیل على منعه، فهو صحيح
جائز شرعاً من حيث أصله بقطع النظر عما يحيط به من مواد
قانونية يجب لمعرفة حكمها استقصاؤها تفصيلاً و دراستها
للحكم فيها.“

(آج کل کے بینک ٹرانسفر کے متعلق ماقبل کے کلام سے جو نتیجہ نکلتا ہے،
وہ یہ ہے کہ بینک ٹرانسفر اور منی آرڈر دیا زیادہ معاملات سے مرکب عمل ہے
اور یہ اس معنی کرایک جدید عقد ہے کہ گزشتہ ادوار میں اس طرح کے مرکب
معاملے پر عمل درآمد جاری نہیں ہوا اور اس کے منوع ہونے کی بھی کوئی دلیل
نہیں ہے، لہذا یہ شرعی لحاظ سے فی نفسه صحیح و جائز ہے، اس سے قطع نظر کہ اس
کو قانونی دفعات کس قدر احاطہ کرتے ہیں، جن کا تفصیلی طور پر جانا اور ان کا
دراسہ ضروری ہو جاتا ہے۔) (۱)

یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت علیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”منی آرڈر“ کے مسئلے میں
اپنے آخری فتوے میں لکھا ہے:

”منی آرڈر مرکب ہے دو معاملوں سے، ایک قرض جو اصل رقم سے متعلق
ہے، دوسرے اجارہ جو فارم کے لکھنے اور روانہ کرنے پر بنام فیس دی جاتی
ہے، اور دونوں معاملے جائز ہیں، پس دونوں کا مجموعہ بھی جائز ہے اور چوں کہ
ابلاع عام ہے اس لیے یہ تاویل کر کے جواز کا فتوی مناسب ہے۔“ (۲)

احقر کے نزدیک بینک سے رقم کی منتقلی کے اس مسئلے میں یہی رائے مناسب معلوم ہوتی
ہے، کہ اس کو مرکب مان کر ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی جائے اور اس سے قبضہ کا

(۱) الحوالۃ: ۲۲۹، ابحاث هیئتہ کیاں العلماء: ۳۶۰/۵، مجلہ البحوث الاسلامیۃ: ۱۲۲/۲۲

(۲) إمداد الفتاوی ، مطبوعہ کراچی: ۱۳۶/۳

تحقیق ہو جانا پہلے معلوم ہو چکا ہے۔

(۲) چیک (Cheque) اور ڈرافٹ (Draft) سے ثمن کی ادائیگی اور
اس میں قبضے کی بحث

چیک اور ڈرافٹ سے ثمن کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ کیا قبضے کے حکم میں آتا ہے؟ اس سلسلے میں عصر حاضر میں علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) ایک رائے علمائی یہ ہے کہ چیک ہر صورت میں خواہ وہ مصدقہ ہو یا نہ ہو، اس پر قبضہ قبضہ شرعی کے حکم میں ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے تحت مجلس "المجمع الفقهی الاسلامی" کے ارکان نے اسی کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ ان کی ایک قرارداد سے مفہوم ہوتا ہے۔
چنانچہ مکتبہ المکتبہ میں منعقد گیا رہویں اجلاس بتاریخ ۱۳ تا ۲۰ رب جن ۱۴۰۹ھ موافق ۲۶ فروری ۱۹۸۹ء، جو قرارداد منظور کی، اس میں ہے:

"يَقُومُ اسْتِلَامُ الشِّيكُ مَقَامَ الْقَبْضِ، عِنْدَ تَوْفُرِ شُرُوطِهِ فِي
مَسَأَةِ صَرْفِ النُّقُودِ بِالتحْوِيلِ فِي الْمَصَارِفِ."

چیک کا قبول کرنا قائم مقام قبض کے ہے، جب کہ وہ سب شرائط پائی جائیں جو یہیک سے نقدی کے ٹرانسفر کی مسئلے میں ہیں۔ (۱)

اسی طرح "الموسوعة الکویتیہ" کے ارکان نے بھی چیک کو مطلقاً قبضے کے حکم میں مانا ہے۔ وہ حضرات لکھتے ہیں:

"فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى أَنَّ الشِّيكَاتِ تُعْتَبَرُ فِي نَظَرِ النَّاسِ وَغَرْفَهِمْ
وَثَقَتْهُمْ بِمِثَابَةِ النُّقُودِ الورقية وَأَنَّهُ يَجْرِي تَداوِلُهَا بَيْنَهُمْ كَالنُّقُودِ
تَظْهِيرًا وَتَحْوِيلًا، وَأَنَّهَا مُحْمَّةٌ فِي قَوَانِينِ جَمِيعِ الدُّولِ مِنْ

(۱) قرارات المجمع الفقهی الاسلامی

حيث إن سحب الشُّيُك على جهة ليس للصاحب فيها رَصِيدٌ يَفْي بقيمة الشيك المَسْحُوب يُعتبر جريمةً شديدةً تعاقب عليها قوانين العقوبات في الدُّول جميعاً، إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يُمْكِن القول معها بأن تسليم المَصْرِف الوسيط شيكًا بقيمة ما أَقْبَضَ من طالب التحويل يُعتبر بمثابة دفع بدل الصُّرف في المجلس.“

(جب ہم چیکوں کی جانب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ اور ان کے عرف میں اور ان کے اعتداد میں انہیں کرنی تو ٹوں کی طرح قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے اور یہ کہ ان کے آپس میں ان کا رواج و چلن ان پر دستخط کرنے اور رُنفر کرنے کے لحاظ سے نقدی کی طرح ہوتا ہے اور یہ کہ چیکوں کو تمام ممالک کے قوانین میں اس حیثیت سے تحفظ حاصل ہے کہ جب چیک کیش کیا جائے اس شخص کے اکاؤنٹ سے جس کے پاس چیک کی قیمت کے برابر قدم دینے کوئہ ہو تو یہ برداشت جرم سمجھا جاتا ہے جس پر تمام ملکوں کے قانون تعزیرات کی بنا پر سزا جاری کی جاتی ہے، جب ہم امور کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک جو کہ واسطہ ہے اس کا اس قیمت کی چیک کا پر دردینا جس قدر کہ رُنفر کرنے والے سے لیا ہے، یہ بدل صرف کے مجلس میں دینے کے برابر ہے۔^(۱))

اسی طرح علامہ وحیدہ الرحمنی نے بھی لکھا ہے:

چیک پر قبضتا کہ بینک سے وصولی کی جائے قبضہ حکمی کی صورت ہے۔^(۲)
اس نظریے کے قائمین نے دلیل میں ایک تو یہ کہا ہے کہ امام شیعی نے روایت کیا ہے کہ

(۱) الموسوعة الكويتية: الحوالة: ۲۳۸:

(۲) الموسوعة القضائية المعاصرة: ۲۷۱:

حضرت عبد اللہ بن الزیرؑ کا معمول تھا کہ وہ مکہ میں کچھ لوگوں سے دراہم لیتے تھے اور ایک پر چی لکھ کر مصعب بن الزیر کے پاس عراق بھیجتے تھے اور وہ لوگ اپنے دراہم ان سے وہاں وصول کر لیتے تھے۔ (۱)

حضرت عبد اللہ بن الزیرؑ کا یہ عمل چیز سے تعامل کی نظر ہے؛ کیوں کہ دراہم لے کر جو پر چی لکھ کر دیتے وہ چیز کے قائم مقام ہے اور اسی کو دکھا کر لوگ مصعب بن الزیر سے اپنے دراہم وصول کر لیتے تھے۔

ان لوگوں نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ چیک چوں کہ قانونی لحاظ سے ایک دستاویزی حیثیت رکھنے والی چیز ہے اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور اسی لیے کوئی شخص اگر چیز دے؛ مگر اکاونٹ میں اتنی رقم نہ ہو تو اس کو تمام ملکی قوانین میں جرم قرار دیا جاتا ہے، لہذا اس تمام وجوہات سے چیز پر قبضے کو قبضہ ہی کے حکم میں مانا مناسب ہے۔
تیسرا بات یہ کہتے ہیں کہ عرف عام میں بھی لوگ اس کو نقد کی طرح استعمال کرتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔

چوتھی بات یہ کہی جاتی ہے کہ تجارتی و اقتصادی عرف بھی بھی ہے کہ چیز کو اپنے کاروباری معاملات میں قبضے کی طرح سمجھ کر قبول کرتے اور دیتے ہیں۔
لہذا چیز پر قبضہ شرعی و حکمی قبضے کی طرح سمجھا جائے گا اور اس پر قبضہ نقد پر قبضے کی طرح ہوگا۔ (۲)

(۲) اس سلسلے میں دوسرانقطہ نظر یہ ہے کہ چیز کسی بھی حال میں قبضے کے حکم میں نہیں

(۱) سنن بیهقی: ۵۷۶۵

(۲) ریکھوب حرث فی الاقتصاد الإسلامی للعلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنبيع: ۳۷۵،

أحكام الشیک - دراسة فقهية: ۵۶-۵۷، أحكام الأوراق النقدية للجعید: ۳۳۲

ہے۔ شیخ ابن عثیمین اور شیخ حسن ایوب کی بھی رائے ہے۔ (۱)

ان لوگوں نے چند دلائل سے کام لیا ہے:

ایک دلیل یہ ہے کہ چیک بھی ضائع ہو جاتی ہے، کبھی منجد کر دی جاتی ہے، کبھی خود چیک دینے والا اس کو موقوف کر دیتا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں ہوتی، لہذا ان صورتوں میں چیک پر قبضہ کو اصل رقم پر قبضہ کیے مانا جاسکتا ہے؟

دوسری دلیل یہ ہے کہ چیک دینے کے بعد چیک سے معاملہ کرنے والوں کے مابین معاملہ ختم نہیں سمجھا جاتا، جب تک کہ وہ چیک سے اپنی رقم وصول نہ کر لے۔ اسی لیے بسا اوقات اگر چیک ضائع ہو جائے تو چیک دینے والے کی جانب رجوع کر کے دوسری چیک لی جاتی ہے، اگر چیک پر قبضہ اصل رقم و نقد پر قبضہ ہوتا تو دوبار چیک لینا کیسے درست ہوتا؟ جیسے نقدی جب کسی کو دے دی جاتی ہے تو وہ اگر ضائع ہو جائے تو دوبارہ کوئی اس کو نہیں دیتا، مگر چیک دوبارہ بھی دی جاسکتی ہے۔

اور تیسرا دلیل یہ ہے کہ اگر چیک پر ایک لمبا عرصہ گز رجاءٰ اور اس کی قانونی مدت (جو عام طور پر تین ماہ ہوتی ہے) پوری ہو جائے تو وہ چیک ناقابل قرار پاتی ہے۔ اگر چیک پر قبضہ کو قبضہ مان لیا جائے تو اس صورت میں اس کا کیا ہو گا؟

ان دلائل کی روشنی میں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ چیک کسی بھی طرح سے قبضہ شرعی کے حکم میں نہیں ہو سکتی۔ (۲)

(۳) اس سلسلے میں تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ علی الاطلاق چیک کو قبضہ قرار دینا صحیح نہیں، بل کہ اس میں تفصیل ہے، کیوں کہ چیک کئی طرح کا ہوتا ہے، لہذا چیک کی قسموں کے لحاظ

(۱) قض الشیک : ص: ۲، احکام الشیک دراسة فقهیہ لعیسی العوادۃ: ۷۶

(۲) دیکھو: بحوث في الاقتصاد الإسلامي : ۸، ۳۳ - ۲۷، احکام الشیک دراسة

سے اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ یہی نقطہ نظر شیخ عبداللہ بن سلیمان المدینی، سعد بن ترکی الحکلان، حسام الدین عفانیہ اور صدام عباد القادر عبداللہ وغیرہ حضرات نے اپنایا ہے۔ علامہ شیخ عبداللہ بن سلیمان المدینی نے اسی کو اختیار کیا ہے، چنان چہ وہ لکھتے ہیں:

”والذی يظہر لی والله أعلم . أن الشیک المعتبر والذی هو فی معنی القبض هو الشیک المصدق ، وتأسیساً علی هذا فإذا اشتري الفرد ذهباً أو فضةً بشمن آخر و بموجب شیک بذلك الثمن ؛ فإن كان مصدقاً فقبضه قبض لمحتواه والمصارفة بذلك صحيحة ، وإن كان غير مصدق فقبضه ليس قبضاً لمشموله ، وبالتألي فقبضه ليس في حكم القبض المبرئ للذمة ، والمصارفة بموجبه في رأي غير صحيحة ؛ لأنَّ التقادُض في مجلس العقد غير متحقّق.“

(جو بات کہ مجھ پر ظاہر ہوئی واللہ اعلم۔ یہ ہے کہ معتبر چیک اور جو قبضے کے حکم میں ہے، وہ وہ چیک ہے جو تصدیق شدہ ہو، لہذا اس بندار پر اگر کوئی شخص سوتا یا چاندی کسی اور ثمن کے بد لے یا چیک کے بد لے خریدے تو اگر وہ چیک مصدق ہے تو اس پر قبضہ اس کے اندر لکھی ہوئی قیمت کا قبضہ ہو گا اور اس طرح بیع الصرف درست ہو جائے گی اور اگر چیک غیر مصدق ہو تو اس پر قبضہ اس کے اندر لکھی ہوئی قیمت پر قبضہ نہ ہو گا اور تب پس اس پر قبضہ اس قبضے کے حکم میں نہ ہو گا جوڑے میں داری سے بری کرتا ہو، اور ایسی چیک سے صرف کاملاً معاملہ کرنا میری رائے میں صحیح نہ ہوگا؛ کیوں کہ تقادُض مجلس میں متحقق نہ ہو۔) (۱)

نیز ایک اور موقعہ پر اس سلسلے میں بعد الجث خلاصہ لکھتے ہیں:

(۱) بحوث في الاقتصاد الإسلامي: ۳۲۷

”و تأسیساً علی ما سبق ذکرُه یُمکِننا القولُ بِأَنَّ الشیکَ
قبضُه قبضٌ لمحتواه إذا كان مُصلَّفاً، أو في قُوَّة التصديق، و
ذلك بصدوره مِمَّن تتوافر فيه الشفَّةُ والاطمئنانُ وسلامةُ
التعامل التجاري ممَّن هو أمينٌ على شرفه و مقامه و علو سمعته
ويُعتبر قبضًا لمحواه في عملية المصاraphة إذا كان مُصدر
الشیک يملُك المبلغ المشمول بالشیک سواء في صناديقه
المحلية، أو في الصندوق المرکزي في مقره الرئيسي.“

(او پر ذکر کردہ امور کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ چیک پر قبضہ اس میں
لکھے ہوئے پر قبضہ ہے بشرطے کہ وہ مصدقہ ہو یا صدقہ کے حکم میں ہو اور یہ
اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ وہ اس شخص کی جانب سے صادر ہو جس میں اعتماد و
طمینان اور تجارتی معاملات میں سلامتی کی صفات پائی جائیں ان لوگوں میں
سے جو اپنے شرف و مقام اور نیک شہرت کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو اور
اس پر قبضے کو بعث الصرف میں بھی اس کے مشمول پر قبضہ سمجھا جائے گا، جب کہ
چیک کو جاری کرنے والا چیک میں لکھے مبلغ کا مالک بھی ہو خواہ مقامی صندوق
میں ہو یا مرکزی صندوق میں ائمے مرکزی مقام پر ہو۔) (۱)

نouٹ: احری عرض کرتا ہے کہ شیخ الحجج کی یہ بات کہ ”غير مصدق سادی چیک سے سونایا
چاندی خریدنا جائز و صحیح نہیں“ یہ ان حضرات کی رائے کے مطابق ہے جو چیک کو سونایا چاندی
کا قائم مقام مانتے ہیں، لیکن جو حضرات اس کو سونے و چاندی کے بجائے کرنی کا قائم مقام
مانتے ہیں اور کرنی کو فلوں کی طرح مستقل ثمن مانتے ہیں، ان کی رائے میں اس سے سونا
چاندی خریدنا جائز ہے، کیوں کہ ان کے زد دیک یعنی الصرف نہیں ہے، جیسا کہ اپنی بعض
تحریرات میں ہم نے تفصیل سے لکھ دیا ہے۔

(۱) بحوث في الاقتصاد الإسلامي: ۳۸۶

اور شیخ عبداللہ بن محمد بن صالح الربيعی نے اپنے رسالے ”قض الشیک“، ہل
یقوم مقام قبض النقد؟ میں تینوں اقوال کے تذکرے اور ان پر مناقشے کے بعد اسی بات
کو ترجیح دی ہے کہ تمام چیک ایک حکم میں نہیں؛ بل کہ ان میں تفصیل ہے، وہ لکھتے ہیں:

”وبالتأمل في هذه الأقوال نجد أنها طرفان و وسط : فالذين
منعوا من اعتبار الشیک في هذه المسائل مطلقاً ، فاتّهم إعمال
النظر فيما يعنيه : تصدیق البنك الشیک و قبول المستفيد
هذا النوع من الشیکات واستلامه إیاہ و قبوله بقاء المبلغ
المقید في شیکہ تحت يد البنك . وإعمال النظر في هذه
الأمور يوصل إلى الحكم الأقرب إلى موافقة الدليل .“

”أما الذين أطلقوا القول في الشیکات بأنّ قبضها كقبض
النقد ، حتى غير المصدقه منها ، فقد فاتّهم إعمال الفروع
المؤثرة بين النقد والشیکات ، و فاتّهم أيضاً اعتبار العيوب و
المخاطر التي تعرض للشیکات وتؤدي في حال وجودها إلى
تفويت حق قابض الشیک أو إلى تعليقه . والقول الوسط في
هذه المسئلة هو القول الأول الذي يقول : بأن قبض الشیک
العادی لا يعدّ قبضاً لمحتواه في هذه العقود التي يشترط لبقائها
على الصحة القبض قبل التفرق . أما الشیک المصدق فإن
قبضه كقبض محتواه .“

(ان اقوال میں غور کرنے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں دو قول دو
انہاؤں میں ہیں اور ایک درمیانی ہے، پس جن لوگوں نے ان مسائل میں
چیک کے معابر ہونے سے مطلقاً انکار کیا ہے، ان کی نظر سے چیک کے بینک

کی جانب سے تصدیق کیے جانے، چیک وصول کنندہ کے اس قسم کی چیک کے قبول کرنے اور اس کے اس کو وصول کرنے اور چیک میں درج رقم کے بینک کے تحت ہونے کو قبول کرنے کا اہم پہلو فوت ہو گیا۔ اور ان امور میں نظر کرنے سے اقرب الی الدلیل حکم کی جانب پہنچا جاسکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو چیکوں کے بارے میں علی الاطلاق یہ کہتے ہیں کہ ان پر قبضہ نفڈی پر قبضے کی طرح ہے؛ یہاں تک کہ غیر مصدقہ چیک بھی، تو ان کی نظر میں سے نقدی اور چیکوں کے درمیان اثر انداز فرق کا پہلو رہ گیا اور نیز چیکوں کے حوالے سے عیوب اور وہ خطرات جو چیکوں کو لائق ہوتے ہیں اور چیک پر قبضہ کرنے والے کے حق کے فوت ہونے یا اس کے متعلق ہونے تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی ان کی نگاہوں سے رہ گئے۔ اور معتدل قول اس مسئلے میں پہلا قول ہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سادہ چیک کو ان معاملات میں اس میں درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں مانا جائے گا جن میں جدائی سے پہلے قبضہ کو صحت پر برقرار رہنے کی شرط مانا گیا ہے، رہی مصدقہ چیک تو اس پر قبضہ اس میں درج رقم پر قبضے کی طرح ہو گا۔ (۱)

نیز حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، وہ اپنی کتاب ”فقہ البيوع“ میں لکھتے ہیں:

”ولَكِنَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ القُولُ بِأَنَّ قَبْضَ

جَمِيعِ الشَّيْكَاتِ فِي حَكْمِ قَبْضِ مَحْتَوَاهُ۔“

(لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں کہ تمام قسم کے چیک پر

قبضہ اس میں درج رقم پر قبضے کے حکم میں ہے۔) (۲)

(۱) قبض الشیک، هل یقوم مقام قبض النقد؟

(۲) فقه البيوع: ۳۳۳/۱

الحاصل تیرا قول اس سلسلے کا یہ ہے کہ چیک کی مختلف حالتوں اور نوعیتوں کی وجہ سے ان کا کوئی ایک حکم نہیں ہو سکتا؛ بل کہ ان کی اقسام کے پیش نظر ان کے احکام بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں، کہ بعض چیک قبضے کے حکم میں ہے اور بعض قسم کی چیک اس کے برخلاف قبضے کے حکم میں نہیں ہے۔

چیک (Cheque) کی اقسام اور ان کے احکام

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ چیک ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تین قسمیں

ہیں: (۱) ڈرافٹ (۲) صدقہ چیک (۳) ذاتی چیک، لہذا ان کے احکام بھی مختلف ہیں:

✿ **بینک ڈرافٹ (Bank Draft):** چیک کی ایک قسم ”بینک ڈرافٹ“ ہے جس کو عربی میں ”الشیک المصرفي“ کہتے ہیں، بینک ڈرافٹ میں چوں کے ڈرافٹ یعنی والا بینک کو اولاً اس قدر رقم نفڈیا اپنے اکاؤنٹ سے ادا کر دیتا ہے اور پھر بینک اس کو اس رقم کا ڈرافٹ جاری کرتا ہے، اس لیے جس کے نام کا ڈرافٹ ہوتا ہے اس کو اس قدر رقم کا ادا کرنا فوری طور پر بینک کے ذمہ لازم ہوتا ہے اور بینک کسی بھی حال میں اس کو رد نہیں کر سکتا، کیوں کہ اتنی رقم کو بینک محفوظ کر دیتا ہے؛ لہذا ڈرافٹ کا حکم یہ ہے کہ اس پر قبضہ کر لینا رقم پر قبضے کے حکم میں ہے۔

پھر ”بینک ڈرافٹ“ کی تکمیل فقہی کے بارے میں اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ عقد وکالت ہے جو حامل چیک اور بینک کے مابین ہوتا ہے، کہ حامل چیک بینک کو اپنی رقم حفظ کرنے اور اس کو پہنچانے کا وکیل بناتا ہے اور بینک اس کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے چیک میں مرقوم رقم کو محفوظ کرتا اور مطالبے پر حامل چیک کو پہنچادیتا ہے۔

مگر اس کو عقد وکالت قرار دیا جائے تو یہاں متعدد اشکالات واقع ہوتے ہیں:

(۱) سوال یہ ہے کہ یہاں حامل چیک نے بینک کو صراحةً وکیل نہیں بنایا ہے تو یہ عقد توکیل کیسے ہوا؟ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں اگرچہ کہ بالصراحةً توکیل نہیں پائی

گئی؛ اگر جب حامل چیک نے چیک کو قبول کر لیا تو گویا اس نے بینک کو قبض شمن میں دکیل بنالیا۔

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے یہی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں:

”ولَكُنِ الْبَايْعُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يُؤْكَلْهُ بِذَلِكَ صِرَاطَةً إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ حِينَما قَبِيلَ الْبَايْعَ أَنْ يَدْفَعَ الشَّمْنَ بِطَرِيقِ الشَّيْكِ الْمَصْرِفِيِّ، فَكَانَهُ جَعَلَ الْبَنْكَ الْمَصْدِرَ لِلشَّيْكِ وَكِيلًا لِللهِ فِي قَبْضِ الشَّمْنِ.“

(لیکن باائع نے ہمارے اس مسئلے میں صراحتاً اس (بینک) کو دکیل نہیں بنایا ہے، مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ جس وقت باائع نے اس بات کو قبول کر لیا کہ شن چیک کے ذریعے دیا جائے تو گویا اس نے چیک جاری کرنے والے بینک کو شن پر قبضے کا دکیل بنادیا۔) (۱)

اسی طرح شیخ عبداللہ بن محمد الرجبی نے ”قبض الشیک هل یقول مقام قبض النقد“ میں فرمایا کہ:

”إِنْ قَبْولَ الْمَسْحُوبِ لِهِ الشَّيْكِ الْمَصْدِقُ يَعْنِي أَنَّهُ رَضِيَ بِكُونِ الْبَنْكِ وَكِيلًا عَنْهُ فِي قَبْضِ الْمُبْلِغِ الْمَقِيدِ فِي هَذِهِ الشَّيْكِ.“

(جس کے لیے چیک ڈرا کی گئی ہے اس کا مصدقہ چیک کو قبول کر لیا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ چیک میں درج رقم کی وصولی میں بینک کو اپنا دکیل بنانے پر راضی ہو گیا۔) (۲)

(۲) یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ با اوقات حامل چیک کو چیک قبول کرتے

(۱) فقه البيوع: ۳۳۶/۱

(۲) قبض الشیک هل یقول مقام قبض النقد: ۱۸

ہوئے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس بینک کا یہ چیک ہے، تو اس صورت میں چیک کے قبول کرنے کو توکیل کے قائم مقام قرار دیا جائے تو یہ توکیل مجہول ہے جو کہ جائز نہیں؟ چنانچہ فقہاء لکھا ہے کہ توکیل کا مجہول ہونا کالت کی صحت میں مانع ہے۔

چنانچہ ”درر الحکام شرح مجلة الاحکام“ میں ہے:

”کُوْنُ الْوَكِيلُ مَعْلُومًا شَرْطٌ يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرِطُ إِلَّا يَكُونَ
الْوَكِيلُ مَعْجُهُوًّا لَا جَهَالَةً فَاجْحَشَةً.“

(توکیل کا معلوم ہونا بھی شرط ہے یعنی یہ شرط ہے کہ توکیل بہت زیادہ مجہول نہ ہو۔) (۱)

اور شافعی کی کتاب ”مغنى المحتاج“ میں ہے:

”يُشْتَرِطُ فِي الْوَكِيلِ أَيْضًا تَعْيِينُهُ، فَلَوْ قَالَ لِاثْتَيْنِ: وَكُلُّتِ
أَحَدَكُمَا فِي بَيْعِ دَارِي مَثَلًا، أَوْ قَالَ: أَذِنْتُ لِكُلِّ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْيَعَ
دَارِي، أَنْ يَبْيَعَهَا لَمْ يَصُحَّ.“

(توکیل میں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ متعین ہو، لہذا اگر دو شخصوں سے کہا کہ میں تم میں سے ایک کو میرا گھر بچنے کا توکیل بناتا ہوں یا یہ کہا کہ میں میرا گھر بچنے کی اجازت دیتا ہوں کہا ان سب کو جو اس کو بچنے کا ارادہ کریں، تو یہ وکالت صحیح نہ ہوگی۔) (۲)

اس کا جواب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ دیا ہے کہ توکیل مجہول کے ناجائز ہونے کی وجہ کا مفضی الی التزاع ہونا ہے، کیوں کہ ممکن ہے کہ ایک قرضدار دی کسی ایسے شخص کے حوالے قرض کی رقم کر دے جس کو وہ میون کا توکیل سمجھتا تھا اور بعد میں قرض دہندہ یہ کہہ

(۱) درر الحکام: ۵۳۶/۳

(۲) مغنى المحتاج: ۲۸۳/۲

دے کہ وہ میرا کیل نہیں تھا تو یہ بات زراع کا سبب بنے گی، لہذا کیل کا معلوم و متعین ہونا لازم ہے؛ لیکن ڈرافٹ کے جاری کرنے میں زراع کا خطرہ نہیں، کیوں کہ یہ موجودہ دور میں قبل و ثق ذرائع میں شمار ہوتا ہے، لہذا ایسا زراع والی بات نہیں پائی جاتی؛ اس لیے مجہول ہونے کے باوجود یہ صورت جائز ہے۔^(۱)

احقر کہتا ہے کہ اس سوال کا ایک اور جواب بھی ممکن ہے، وہ یہ کہ ایک ہے خود کیل کا مجہول ہونا کہ کیل متعین نہ ہو اور ایک ہے کیل متعین ہونے کے باوجود کیل کا پتہ نہ لگنا، پہلی بات کو تو کیل مجہول اور دوسری صورت کو جہالت بالکیل کہا جاتا ہے۔ ”دور الحکام شرح مجلة الاحکام“ میں پہلی صورت کو صحبت وکالت میں مانع قرار دیا ہے؛ جب کہ دوسری صورت کو مانع صحبت نہیں؛ بل کہ جائز قرار دیا ہے۔

چنان چہ وہ اپر والی عبارت کے بعد جس میں تو کیل مجہول کو نادرست قرار دیا ہے، یہ لکھتے ہیں:

”أَمَّا الْجَهْلُ بِالْوَكِيلِ جَهَالَةً فَإِحْشَةٌ فَلَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ
الْوَكَالَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَالْأَحَدُ لَا تُنَيِّنُ مُعَيَّنَينِ خَطَابًا لَهُمَا“
وَكُلُّ أَحَدٍ كُمَا بِبَيْعٍ فَرَسِيٌّ هَذَا، جَائزٌ وَأَيُّهُمَا بَاعَهُ كَانَ الْبَيْعُ
صَحِيحًا نَافِدًا۔“

(رہا و کیل کا بہت زیادہ مجہول ہونا تو یہ صحبت وکالت میں مانع نہیں ہے؛ لہذا اگر کسی نے دو متعین لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کو اس بات کا وکیل بنایا ہے کہ میرا گھوڑا افرخ خست کیا چاہے، تو یہ جائز ہے۔ اور ان دونوں میں سے جو کوئی بھی یہ گھوڑا ایچ تو یہ حق صحیح اور نافذ ہوگا۔)^(۲)

(۱) دکھنون: فقه البيوع: ۳۳۵

(۲) درر الحکام: ۵۳۶/۳

لہذا یہاں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وکیل تو متعین و معلوم ہے؛ کیوں کہ جس بینک کا ڈرافٹ ہے وہ متعین ہے، مگر اول وہلے میں باعث کو پتہ نہ ہوا؛ لیکن بعد میں تو معلوم ہو، ہی جائے گا؛ لہذا یہ چیل بالوکیل ہے، نہ کہ توکیل بالمحول۔ والله اعلم

(۳) اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ڈرافٹ پر قبضے کو صحیح مانیں تو بینک باعث کی جانب سے وکیل بالقبض ہو گا، تو پھر بینک کو اس میں تصرف منوع ہونا چاہیے؛ کیوں کہ یہ رقم بینک کے پاس امانت ہے اور امانت میں تصرف جائز نہیں، حالانکہ بینک اس رقم کو خریدار سے لے کر اپنے تصرف میں لاتی ہے اور جب حاصل چیک مطالبہ کرتا ہے اس وقت اس کو دیتی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمانی یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ یہ رقم ابتداءً تو امانت تھی؛ لیکن جب بینک نے اس کو اپنے دیگر اموال میں خلط کر دیا تو اس کے امانت نہیں رہی؛ بلکہ اس کی خمائت میں داخل ہو گئی۔ لہذا اس کو تصرف کی اجازت بھی ہو گی۔ (۱)

(۲) ڈرافٹ کو وکالت قرار دینے پر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ڈرافٹ بنا کر دینے کے لیے بینک اجرت لینتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اس کو وکالت بالاجر کہہ سکتے ہیں اور وکالت بالاجر تمام فقہا کے زدیک جائز ہے، یا اس کو وکالت کی اجرت کے بجائے چیک بنانے کی اجرت قرار دیا جاسکتا ہے، جس طرح کہ منی آڑو کے سلسلے میں لی جانے والی رقم کو اجرت قرار دیا گیا ہے۔ اور وکالت بالاجر بھی فی الواقع اجارے ہی کی ایک صورت ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وَيُحُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ فَإِنْ

كانت بجعل استحق الوكيل يجعل بتسلیم ما وکل فيه إلى المُوكل إن كان مما يُمکن تسليمه ، كثوب ينسجه ، أو

(۱) دیکھو: فقه البيوع: ۲۲۶/۱

يَقْصُرُهُ، أَوْ يَخِطِّهُ، فَمِنْ سَلْمَةٍ إِلَى الْمُوْكَلِ مَعْمُولاً، فَلَهُ
الْأَجْرُ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَاطُ فِي دَارِ الْمُوْكَلِ، فَكُلُّمَا عَمِلَ شَيْئاً
وَقَعَ مَقْبُوضاً، فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجَعْلُ إِذَا فَرَغَ الْخِيَاطُ مِنْ
الْخِيَاطَةِ، وَإِنْ وَكَلَ فِي بَيْعٍ، أَوْ شَرَاءً، أَوْ حِجَّةً إِسْتَحْقَاقُ الْأَجْرِ
إِذَا عَمِلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الشَّمْنَ فِي الْبَيْعِ.

(اور اجرت پر یا بلا اجرت وکیل بنانا جائز ہے..... پس اگر اجرت پر
تو کیل ہو تو وکیل اجرت کا مستحق قرار پائے گا جب وہ اس چیز کو موکل کے
حوالے کر دے گا، جس میں اس کو وکیل بنایا گیا تھا، بشرطے کہ وہ ان چیزوں
میں سے ہو جن کو سپرد کیا جانا ممکن ہو، جیسے کہ اس کو بننے یا دھونے یا سینے دیا
گیا تھا، لہذا جب بھی وہ اسے سپرد کر دے گا اجرت کا حقدار ہو گا۔ اور اگر
درزی موکل ہی کے گھر میں ہو تو جس قدر بھی کام وہ کرتا جائے اس قدر پر قبضہ
ہوتا جائے گا اور وکیل اس وقت مستحق اجرت ہو گا جب درزی سینے کے کام
سے فارغ ہو جائے گا۔ اور اگر بیچنے یا خریدنے یا حج کرنے میں وکیل بنایا تو
اس کام کے انجام دینے پر وہ مستحق اجرت ہو جائے گا، اگرچہ کبیت کی صورت
میں شمن پر قبضہ نہ ہوا ہو۔) (۱)

اور علامہ ابن جزی مالکی "القوانين الفقهية" میں لکھتے ہیں:

"تجوز الوكالة بأجرة، وبغير أجرة، فإن كانت
بأجرة، فحكمها حكم الإجرارات، وإن كانت بغير أجرة، فهو
المعروف من الوكيل." (۱)

(وکالت اجرت کے ساتھ اور بلا اجرت دونوں طرح جائز ہے، اگر اجرت

(۱) المعنی: ۲۱۰/۵

(۲) القوانين الفقهية: ۲۱۵

کے ساتھ ہو تو اس کا حکم دیگر کراہی داری کے معاملات کی طرح ہے اور اگر بلا اجرت ہو تو وہ وکیل کی جانب سے احسان ہے)

اور مجلہ الاحکام العدلیہ میں ہے:

”إِذَا شَرِطْتُ الْأَجْرَةَ فِي الْوَكَالَةِ وَ أَوْفَاهَا الْوَكِيلُ إِسْتَحْقَقَ الْأَجْرَةُ، وَإِنْ لَمْ تُشْرَطْ وَلَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مِمْنَ يَخْدُمُ بِالْأَجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّغًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأَجْرَةِ.“

(اگر وکالت میں اجرت کی شرط لگائی گئی تھی اور وکیل نے اس کام کو پورا کر دیا تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا اور اگر شرط نہیں لگائی تھی اور وکیل ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اجرت پر کام کرتے ہیں تو یہ تبرع کرنے والا شمار ہو گا، لہذا اس کو اجرت کے مطلبے کا حق نہ ہو گا۔) (۱)

خلاصہ یہ کہ ڈرافٹ کو چوں کہ قانونی تحفظ حاصل ہے اور اس میں مذکور رقم کے مستحق کو پہنچنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے؛ اس لیے اس کو قبضے کے حکم میں مانا جائے گا۔ اور جہاں معاملات میں قبضہ ضروری ہے جیسے بیع الصرف ان میں چیک پر قبضے کو قبضہ بوساطہ وکالت قرار دیا جائے گا۔

✿ تصدیق شدہ چیک (Certified Cheque):

دوسری قسم چیک کی وہ ہے جس کو مصدقہ چیک (Certified Cheque) کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیک پر بینک کی تصدیق ہوتی ہے کہ چیک پر درج رقم اس شخص کے اکاؤنٹ میں موجود ہے اور اس کو حامل چیک نکال سکتا ہے۔ اور عام طور پر بینک اس پر یہ لکھتا ہے: Accepted (یعنی مقبول)۔

ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی ڈرافٹ ہی کا حکم ہے کہ اس پر قبضہ حاصل رقم پر قبضے کے حکم میں ہو گا؛ کیوں کہ یہاں بھی رقم محفوظ ہو جاتی ہے اور بلا کسی خطرے کے وہ حامل چیک کوں جاتی ہے۔

(۱) مجلہ الاحکام العدلیہ: ۲۸۵

**شیخ عبد اللہ بن محمد الرابعی "صدقہ چیک" کے قبضے کے حکم میں ہونے کی وجہات
تاتے ہوئے ایک وجہ یہ لکھتے ہیں:**

”إن المبلغ المعين فيه في قبضة البنك ، و محجوز لديه
بالعملة المنصوص عليها في الشيك لصالح المستفيد ، فلا
 يستطيع الساحب التصرف به ، ولا الرجوع فيه ، إلا بموافقة
المستفيد ، لا سيما وقد استلم هذا المستفيد شيكه هذا“
(وہ رقم جو چیک میں معین کی گئی ہے وہ بینک کے قبضے میں ہے اور اس
کرنی کے عوض جس کی صراحت چیک میں کی گئی ہے، یہ رقم اس کے پاس اس
شخص کے حق میں محفوظ ہے جس کے نام کی چیک ہے، لہذا یہ بینک سے رقم
نکالنے والا (چیک بنانے والا) اب اس میں اس دوسرے شخص کی اجازت
کے بغیر کوئی تصرف کر سکتا ہے، نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ
چیک اس دوسرے شخص کے حوالے بھی کر دی گئی ہے۔)

پھر دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں:

”سلامة الشيك المصدق من العيوب و المخاطر التي

تعرض للشيك العادي .“

(تصدیق شدہ چیک کا ان عیوب و خطرات سے محفوظ ہونا جو سادہ چیک کو
لاحق ہوتے ہیں۔) (۱)

الغرض جب مصدقہ چیک بھی ڈرافٹ کی طرح قابل اعتماد ہے اور لازمی طور پر حاصل
چیک کو اس سے مرقوم رقم موصول ہو جاتی ہے تو اس پر قبضہ بھی دراصل اصل پر قبضہ کی طرح
ہے اور اس میں بھی بینک کے توسط کو دکالت سمجھا جائے گا اور کیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے،
لہذا صرف میں بھی بینک کا قبضہ موکل کا قبضہ شمار ہو کر بیع الصرف بھی جائز ہوگی۔

(۱) قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد؟

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

”والظاهر أن مثل هذا الشيك لا يختلف عن الشيك المصرفي إلا في أن المصدر في الشيك المصرفي هو البنك نفسه، وفي البنك المصدق (كذا في الأصل وهو سهو غالباً ولعله الشيك المصدق) يصدره صاحب الحساب، ولكن مبلغه محجوز عند البنك كما كان محجوزاً في الشيك المصرفي . وما دام أن المبلغ محجوز عند البنك ؛ فإن ما ذكرناه في الشيك المصرفي ينطبق تماماً على الشيك المصدق أيضاً۔“

(ظاہریہ ہے کہ اس جیسی چیک (صدقة چیک) بینک ڈرافٹ سے مختلف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بینک ڈرافٹ تو خود بینک ہی جاری کرتا ہے، اور صدقہ چیک وہ جاری کرتا ہے جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی رقم بینک کے پاس محفوظ ہوتی ہے جس طرح ڈرافٹ کی صورت میں محفوظ ہوتی ہے، لہذا جب تک کہ وہ رقم بینک کے پاس محفوظ ہے ہم نے جو کچھ ڈرافٹ کے سلسلے میں بیان کیا ہے وہ صدقہ چیک پر بھی پورے طور پر منطبق ہوتا ہے۔) (۱)

﴿ ذاتی چیک ﴾ (Personal Cheque)

چیک کی تیری قسم وہ ہے جس کو ذاتی چیک: (Personal Cheque) کہا جاتا ہے، جو آدمی کبھی خود کے لیے اور کبھی کسی کو دینے کے لیے بینک کے نام جاری کرتا ہے، لیکن اس میں اس بات کی کوئی توثیق نہیں ہوتی کہ چیک جاری کرنے والے کے اکاؤنٹ میں اس قدر رقم بھی موجود ہے جو نکالی جاسکتی ہے اور نہ اس میں بینک کی جانب سے کوئی التزام ہوتا

(۱) فقه البيوع: ۳۲۷

ہے کہ اس قدر رقم ادا کی جائے گی۔ ایسا چیک اگر جاری کیا گیا اور بینک کے سامنے پیش ہوا تو اگر اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے تو بینک رقم دینے کی پابند ہے، بشرطیکہ کوئی اور وجہ مانع نہ بنے، ورنہ بینک چیک کو واپس کر دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب اس چیک سے حامل چیک کو رقم مل جانا محتمل ہے اور لقینی نہیں، تو اس پر قبضہ کو صل قلم پر قبضہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ لہذا اسادہ چیک ان معاملات میں جہاں قبضے کی شرط ہے جیسے بیع الصرف، اس میں استعمال نہیں کی جاسکتی اور اس کو قبضہ نہیں مانا جائے گا۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہاں بھی بینک وکیل ہے اور اس کا قبضہ صل کا قبضہ ہے تو عرض ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے؛ کیوں کہ بینک نے خود اس کو دینے کا کوئی التزام نہیں کیا ہے اور اس قدر رقم اس کے اکاؤنٹ میں ہے یا نہیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے اور یہاں بینک اس رقم کی ادائیگی سے انکار کر سکتا ہے، لہذا یہاں دکالت والی وہ صورت نہیں پائی جاتی۔

اب رہایہ سوال کہ غیر مصدقہ چیک کی صورت فقہی لحاظ سے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بعض علمانے حوالے کا درجہ دیا ہے، لہذا یہاں چیک جاری کرنے والا اس قدر رقم کو بینک پر حوالہ کرتا ہے، اس لیے چیک جاری کرنے والا محیل اور وہ شخص جس کو رقم دینا ہے وہ محتال اور بینک محتال علیہ ہے۔

مگر یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ حوالے میں لازم ہے کہ حوالے کے تینوں اطراف یعنی محیل محتال اور محتال علیہ سب راضی ہوں ورنہ حوالہ تام نہیں ہوتا اور بالخصوص محتال علیہ کا راضی ہونا شرط ہے، مگر یہاں بینک اس حوالے سے راضی نہیں ہوتا، تو یہ حوالہ تام نہ ہوا؟
چنانچہ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

”أَمَّا رُكْنُ الْحَوَالَةِ فَهُوَ الْإِيَجَابُ وَالْقَبُولُ، الْإِيَجَابُ مِنْ الْمُحِيلِ، وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ جَمِيعًا، فَالْإِيَجَابُ: أَنْ يَقُولَ الْمُحِيلُ لِلْطَّالِبِ: أَحْلَلْتُكَ عَلَى فُلَانٍ هَكَذَا،

وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا:
فَبِلْتُ أُو رَضِيَتْ ، أَوْ نَحْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُدْلِلُ عَلَى الْقَبُولِ وَالرِّضَا ،
وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا .”

(اور رہے حوالے کے ارکان تو وہ ایجاد و قبول ہیں، ایجاد محیل کی جانب سے اور قبول محال علیہ اور محال دونوں کی جانب سے، پس ایجاد یہ ہے کہ محیل مطالبه کرنے والے سے کہہ کہ میں نے تھے فلاں کے حوالے کر دیا اور قبول کرنے والے محال علیہ اور محال میں سے ہر ایک کہہ کہ میں نے قبول کیا یا کہے کہ میں راضی ہوا یا اس جیسی بات جو قبول و رضا پر دلالت کرے، یہ ہمارے اصحاب کے نزدیک ہے۔) (۱)

لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہاں بینک راضی نہیں جو کہ محتال علیہ ہے تو یہ حوالہ کیسے صحیح ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حوالے میں محتال علیہ کا راضی ہونا ایک اختلافی مسئلے ہے، امام شافعی و امام مالک اور امام احمد - رحمہم اللہ - کے نزدیک محتال علیہ (جیسے یہاں بینک ہے) کا راضی ہونا لازم نہیں ہے، بشرطے کہ اس پر محیل کادین و قرضہ ہو، مثلاً زید کا قرضہ خالد پر تھا اور خالد کا قرضہ عابد پر تھا تو خالد زید کا قرضہ عابد پر حوالہ کر دے تو یہ جائز ہے، خواہ اس سے عابد راضی ہو یا نہ ہو۔ (۲)

اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ حوالے کی دو قسمیں ہیں: مطلقة اور مقیدہ، مطلقة یہ ہے کہ محتال علیہ پر محیل کا کوئی دین نہ ہو اور مقیدہ یہ ہے کہ محتال علیہ کے ذمہ محیل کا کوئی دین ہو۔ علمائے شافعیہ و حنبلہ و مالکیہ کے نزدیک حوالہ مطلقة جائز نہیں ہے، صرف حوالہ مقیدہ جائز ہے جس کی صورت یہ ہے کہ محتال علیہ پر محیل کا قرضہ ہو تو وہ محتال علیہ پر اپنے قرض دہندہ کا حوالہ کر سکتا ہے خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو۔

(۱) بدانع الصنائع: ۶/۱۵

(۲) المغني لابن قدامة: ۵/۱۰

شافعی کی کتاب ”تکملة المجموع شرح المهدب“ میں ہے:
 ”إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَقٌْ، فَأَحَالَهُ عَلَى مَنْ لَا حَقٌْ
 عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِلِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَوَالَةُ لَمْ تَصْحُّ الْحَوَالَةُ، وَلَمْ
 يَبْرُأْ الْمُحِيلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ شَيْئاً عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ۔“
 (اگر ایک شخص کا دوسرا پر حق تھا اور اس نے اسے ایک ایسے شخص کے
 حوالے کیا جس پر کوئی حق نہیں تھا تو اگر محال علیہ اس کو قبول نہ کرے تو حوالہ صحیح
 نہ ہوگا اور نہ محیل اس سے بری ہوگا؛ کیونکہ یہ شخص محال علیہ پر کسی چیز کا
 استحقاق نہیں رکھتا۔) (۱)

حنبلی نہب کے مشہور فقیہ علامہ ابن قدامہ نے ”المغني“ میں لکھا:
 ”الشَّرْطُ الثَّانِيُّ، أَنْ تَكُونَ عَلَى ذِيْنِ مُسْتَقِرٍّ. وَلَا يُعْتَبِرُ أَنْ
 يُحِيلَ بِذِيْنِ غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ.“

(دوسری شرط یہ ہے کہ حوالہ کسی ایسی دین پر ہونا چاہیے جو دوسرے کے
 ذمہ مقرر ہوا اور ایسے دین پر حوالہ کیا جانا معتبر نہیں جو غیر مستقر ہو۔) (۲)

حنبلی کی مستند کتاب ”الروض المریع“ میں ہے:
 ”وَ لَا تَصْحُّ الْحَوَالَةُ إِلَّا عَلَى ذِيْنِ مُسْتَقِرٍّ؛ إِذْ مُقْتَصَدُهَا إِلَرَامُ
 الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالذِيْنِ مُطلقاً، وَ مَا لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ عَرْضَةً
 لِلسُّقُوطِ، فَلَا تَصْحُّ عَلَى مَالِ كِتَابَةِ، أَوْ سَلِيمٍ، أَوْ صَدَاقٍ قَبْلَ
 دَخْولِهِ، أَوْ ثَمَنِ مَدَةِ حِيَارٍ، وَ نَحْوَهَا، وَ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مَنْ لَا
 ذِيْنَ عَلَيْهِ فَهِيَ وَكَالَّةٌ.“

(۱) تکملة المجموع ۳۱/۳۳

(۲) المغني: ۵/۵

(حوالہ صحیح نہیں ہوتا؛ مگر ایسے دین پر جو مقرر ہو، کیوں کہ حوالہ کا مقتضی حال علیہ پر مطلقاً دین کو لازم کرنا ہے اور جو اس کے ذمہ مقرر نہ ہو وہ ساقط ہونے کی زد میں ہوتا ہے، لہذا مال کتابت، بدل سلم اور دخول سے پہلے مہر کی رقم یادت خیار میں ثمن پر حوالہ کرنا صحیح نہیں اور اگر اس پر حوالہ کیا جس پر دین نہیں ہے تو وہ وکالت ہے۔) (۱)

اسی طرح ”منار السبیل“ میں لکھا ہے:

”الثالث: استقرارُ المَالِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، نصٌّ عَلَيْهِ، لَا نَأْنَى
مَقْتَضاهَا إِلَزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدِّينِ مَطْلَقاً، وَمَا لَيْسَ بِمُسْتَغْرِ
عَرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ، فَلَا تَصْحُّ عَلَى مَالِ كِتَابَةِ، أَوْ صَدَاقٍ قَبْلِ
دُخُولِهِ، أَوْ ثَمَنِ مَدَةِ خِيَارٍ، أَوْ جُحْلِ قَبْلِ الْعَمَلِ.“

(تیسرا شرط: مال کا محال علیہ پر مقرر ہونا، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے، وجہ یہ کہ حوالہ کا مقتضی حال علیہ پر مطلقاً دین کو لازم کرنا ہے اور جو اس کے ذمہ مقرر نہ ہو وہ ساقط ہونے کی زد میں ہوتا ہے، لہذا مال کتابت اور دخول سے پہلے مہر کی رقم پر یادت خیار میں ثمن پر یا کام پورا ہونے سے پہلے اجرت کی رقم پر حوالہ کرنا صحیح نہیں۔) (۲)

اور فقہ مالکی کی معروف کتاب ”الشرح الكبير“ للعلامة الدردری میں ہے:
”شَرْطٌ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ رَضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقْطُ(لا
الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَ لَا يُشَرِّطُ حُضُورُهُ، وَ إِقْرَارُهُ
عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُرَجَّحَيْنِ، وَ الثَّانِي يُشَرِّطُ (وَ ثَوْثَ دِينِ)
لِلْمُحِيلِ فِي ذَمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ.“

(۱) الروض المربع: ۲۱۸

(۲) منار السبیل: ۳۶۵/۱

(حوالے کے صحیح ہونے کی شرط مشہور قول پر صرف محل اور محل کا راضی ہونا ہے، نہ کہ محل علیہ کا راضی ہونا اور نہ اس کا حاضر ہونا اور نہ اس کا اقرار کرنا شرط ہے ان دو قولوں میں سے ایک کے مطابق جن کو راجح قرار دیا گیا ہے اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شرط ہے اور (حوالے کے صحیح ہونے کی دوسری شرط) محل کا محل علیہ کے ذمہ دین کا ثبوت ہے۔) (۱)

اسی طرح فقد مالکی کی متعدد کتب میں یہ مسئلہ مصرح ہے کہ حوالہ میں یہ شرط ہے کہ محل کا دین محتال علیہ کے ذمہ ہو، ورنہ حوالہ صحیح نہ ہوگا۔ (۲)

جب یہ واضح ہو گیا کہ ائمہ تلاش کا مسلک یہ ہے کہ حوالہ مقیدہ جائز ہے جس میں محتال علیہ پر محل کا قرضہ ہوتا ہے تو اب زیر بحث صورت میں بینک کے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا اس کے ذمہ چیک دینے والے کا قرضہ ہے؟ ظاہر ہے کہ بینک میں جب اس نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا�ا ہے تو جو رقم جمع کی ہے وہ بینک کے ذمہ محض امانت نہیں ہے؛ بلکہ قرض ہے، لہذا ائمہ تلاش کے مسلک کے مطابق اس مسئلے میں حکم یہ ہوگا کہ چیک جاری کرنے والے کی رقم اگر بینک میں جمع ہو اور اس کا اکاؤنٹ خالی نہ ہو تو یہ سادہ چیک حوالہ قرار پائے گی اور یہ معاملہ جائز ہوگا اور اگر اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہ ہو تو ان حضرات کے مسلک کے مطابق بھی یہ حوالہ درست نہ ہوگا، کیوں کہ بینک (جو کہ محل علیہ ہے) کے ذمہ چیک جاری کرنے والی کی کوئی رقم نہیں ہے۔

حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سلسلے میں اپنی کتاب "فقہ المیوع" میں جو لکھا ہے ہم نے اسی کی وضاحت حوالوں کے ساتھ یہاں کر دی ہے۔ حضرت مولانا کی عبارت اس

(۱) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ۳۲۵/۳

(۲) دیکھئے: أقرب السالك لمذهب مالك: ۷/۱، الذخیرة للإمام القرافي: ۲۵۳/۹، جامع الأمهات لابن الحاجب: ۲۷۲/۱، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: ۳۰/۱، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ۳۲۲/۳

سلسلہ میں یہ ہے:

” وَ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ فَقَهَا أَنَّ الْمُشْتَرِي يَحِيلُ الْبَائِعَ عَلَى بَنْكِهِ، وَهُوَ مُحِيلٌ وَالْبَائِعُ مُحْتَالٌ وَالْبَنْكُ مُحَالٌ عَلَيْهِ۔ فَإِن رَضِيَ الْبَائِعُ بِقَبْوُلِ الشَّيْكِ حَصَلَ بِهِ رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ، أَمَّا الْبَنْكُ فَلَمْ يَرْضِ بِهِذِهِ الْحَوَالَةِ بَعْدَ، فَنَفَتِ الْحَوَالَةُ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ رِضَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لِصَحَّةِ الْحَوَالَةِ وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِعِ مِنْ مَذَهِبِهِمْ، وَلَكِنْ تَصْحُّ الْحَوَالَةُ عِنْهُمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِمَصْدَرِ الشَّيْكِ رَصِيدٌ قَبْلَ لِلسَّحْبِ بِقَدْرِ مَبْلَغِ الشَّيْكِ؛ فَإِنَّ الْحَوَالَةَ عِنْهُمْ مَقِيدَةٌ دَائِمًا بِدِينِ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ۔“

(فقہی لحاظ سے اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ خریدار بائع کو بنک کے حوالے کر رہا ہے اور وہ محیل ہے اور بائع محال اور بنک محال علیہ ہے، پس اگر بائع چیک کے قبول کرنے پر راضی ہو گیا تو محیل اور محال کی رضا حاصل ہو گئی، رہی بنک تو وہ اب تک تو اس حوالے سے راضی نہیں ہے، لہذا یہ حوالہ ان حضرات کے نزدیک تمام ہو گیا جو محال علیہ کی رضا کو صحت حوالہ کے لیے شرط نہیں قرار دیتے اور وہ حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ ہیں ان کے راجح قول کے مطابق ہیکن ان کے نزدیک یہ حوالہ اس شرط کے ساتھ صحیح ہو گا کہ چیک جاری کرنے والے کے پاس اکاؤنٹ میں اس قدر رقم موجود ہو، متنی کہ چیک میں لکھی ہے؛ کیوں کہ ان کے نزدیک حوالہ ہمیشہ محیل کے دین کے ساتھ مقید ہوتا ہے جو محال علیہ کے ذمہ ہو۔) (۱)

ہاں یہ سوال یہاں باقی رہ جاتا ہے کہ عند الحجۃ یہ معاملہ جائز نہ ہوا؛ کیوں کہ ان

(۱) فقہ السیوی: ۲۳۸/۱

حضرات کے نزدیک حوالے میں محتال علیہ کی رضالازم ہے، تو حضرت مولانا نے اس اشکال کے حل کی یہ صورت بیان کی ہے کہ چیک کے جاری کرنے کے وقت تو یہ حوالہ نامکمل ہوگا؛ لیکن جب چیک پیش کرنے پر بینک اس کو قبول کر لے گا تو حوالہ مکمل ہو جائے گا اور چیک کے حامل کو بطریق حوالہ رقم وصول ہو جائے گی۔ (۱)

الغرض جب یہ واضح ہوا کہ یہ معاملہ حوالہ کی قبل سے ہے اور اس کو بعض ائمہ کے مسلک کے مطابق حوالہ قرار دینے میں کوئی اشکال نہیں اور حفیہ کے مطابق جواشکال ہوتا ہے اس کو ایک تاویل سے ختم کیا جاسکتا ہے تو اب یہ قابل غور ہے کہ کیا سادہ چیک پر قبضہ کو شرعی قبضہ قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شریعہ حضرات فقہاء علماء نے اس کو قبضہ ماننے سے انکار کیا ہے؛ اگر چہ بعض اس کو قبضہ ماننے کے قائل بھی ہیں جیسا کہ اوپر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

پھر یہاں ایک جماعت علمائی وہ ہے جو سادہ چیک کی دو قسمیں کرتی ہے: ایک وہ جس میں چیک کے لین دین کے دن ہی کی تاریخ ہو اور دوسرا وہ جس میں آئندہ کی کوئی تاریخ ہو اور یہ فرق بیان کرنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس چیک پر آئندہ کی تاریخ ہو وہ قبضے کے حکم میں نہیں اور جس پر اسی دن کی تاریخ ہو وہ قبضے کے حکم میں ہے۔

”احکام الشیک“ کے مؤلف لکھتے ہیں:

”إِنْ قَبْضُ الشِّيْكِ غَيْرُ الْمُصَدَّقِ الْحَالَ الْمَكْتُوبِ بِتَارِيخِ

الْيَوْمِ وَ الْمُبَيِّنِ الْقِيمَةِ بِالتَّحْدِيدِ يُعْتَبَرُ قَبْضًا لِمُحْتَوَاهِ بَشَرَطٍ أَنْ

يُرَافِقَهُ مِنَ الْقَرَائِينَ مَا يَدْلُلُ عَلَى وُجُودِ رَصِيدٍ لَهُ لَدَى

الْمَحْسُوبِ عَلَيْهِ.“

(غیر مصدقہ چیک پر قبضہ جس پر آج کی تاریخ لکھی ہو اور قیمت کی تحدید

(۱) فقه البيوع: ۳۳۷/۱

کے ساتھ صراحت کر دی گئی ہو، ایسی چیک پر قبضہ کو اس پر درج رقم پر قبضہ مانا جائے گا؛ بشرطے کہ ایسے قرائیں پائے جائیں جو ہینک کے پاس اس کا اکاؤنٹ ہونے پر دلالت کریں۔ (۱)

اور دکتور حسام الدین بن موتی عفایۃ (استاذ الفقه والاصول ، جامعۃ القدس) اپنی کتاب ”یسیلوونک عن المعاملات المالية“ میں لکھتے ہیں:

”إذا نظرنا إلى حقيقة التعامل بالشيكات ، وأن منزلتها لا تقل عن منزلة التعامل بالأوراق النقدية ، وإذا اشترطنا في الشيك الحلول بمعنى أن يكتب تاريخ الشيك في تاريخ المصارفة ، وأن يكون المبلغ المكتوب فيه محدداً ؛ فإنه يجوز استعمال الشيك في هذه الحالة ، ويعتبر استلام الشيك بمثابة قبض المبلغ المدون فيه ، فقبض الشيك في هذه الحالة يقوم مقام قبض بدل الصرف ذاته .“

(جب ہم نظر کرتے ہیں چیکوں سے تعامل کی حقیقت پر اور اس پر کہ اس کا مقام کرنی نہیں کے تعامل سے کم نہیں ہے اور جب ہم چیک میں اس کا وقت ہو جانے کی شرط لگاتے ہیں یعنی یہ شرط کہ بیع صرف جس دن ہوئی ہے اسی دن کی تاریخ نکھلی جائے اور یہ کہ اس میں نکھا ہوا مبلغ متعین ہو تو اس صورت میں چیک کا استعمال جائز ہے اور چیک کے قول کر لینے کو اس میں نکھلی ہوئی رقم پر قبضے کے قائم مقام مانا جائے گا، لہذا اس حالت میں چیک پر قبضہ خود بدل صرف پر قبضے کے قائم مقام ہو گا۔) (۲)

(۱) أحكام الشيك، دراسة فقهية: ۷۸

(۲) یسیلوونک عن المعاملات المالية: ۱۰۷

لیکن اکثر علماء سادہ ذاتی چیک کو کسی بھی صورت میں قبضے کے حکم میں نہیں مانتے؛ کیوں کہ اس چیب سے رقم پر حقیقت قبضہ نہیں ہوتا، نہ خود معاملہ کرنے والے کا اور نہ اس کے کسی وکیل کا، جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا؛ کیوں کہ قبضہ تو اس وقت کہا جائے گا جب اس رقم پر تصرف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور یہاں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

مثلاً چیب دینے والے کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہ ہو، یا چیب جاری کرنے والا خود پینک کو حکم جاری کر دے کہ یہ چیک کیش نہ کی جائے تو ان صورتوں میں ترتیب درج ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ حامل چیک کو رقم نہ ملے، اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ سادہ چیک قبضے کے حکم میں نہیں ہے، لہذا اس کو صرف کے معاملات میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) کریڈیٹ کارڈ (Credit Card) کی مختلف فتحیں

اور ان سے ثمن کی ادائیگی کا حکم

ثمن کی ادائیگی کی ایک جدید شکل یہ ہے کہ کریڈیٹ کارڈ سے ادائیگی کی جائے، جس کو عربی میں ”بطاقة الائتمان“ کہا جاتا ہے اور اس کی انقسام پائی جاتی ہیں: جیسے کریڈیٹ کارڈ، چارج کارڈ (Charge card)، ڈبیٹ کارڈ (Debit card)، ویزا کارڈ (Visa card)، ماستر کارڈ (Master card)، امریکن ایکسپریس (American Express)، دنرز کلب (Diners Club)، یورو کارڈ (Euro card) وغیرہ۔ ان کارڈوں کے حصول کے طریق کا اور ان کی شرائط کی تفصیل کے لحاظ سے ان کی فتحیں بنتی ہیں، مگر یہاں اس وقت ہمیں نہ تو ان کارڈوں کی شرعی حیثیت سے بحث مقصود ہے اور نہ ان کی مکمل تفصیلات کو پیش کرنے مطلوب ہے؛ بل کہ صرف یہ مقصود ہے کہ ان مختلف فتح کے کارڈوں سے ثمن کی ادائیگی کا حکم کیا ہے، اور یہ کہ ان سے قبضہ متحقق ہو جائے گا نہیں؟

اس لحاظ سے یہاں اس کی بنیادی قسموں کا حکم بیان کرتے ہیں جن سے دیگر کارڈوں کا حکم بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

ڈبیٹ کارڈ: (DEBIT CARD)

یہ کارڈ بینک سے ان کو فرما، تم کیا جاتا ہے جن کا اسی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہو اور اس سے آدمی کسی تاجر سے کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے اور جب وہ اپنا یہ کارڈ تاجر کو دیتا ہے تو وہ مشین میں لگا کر فوری طور پر اپنے سامان کی رقم نکال لیتا ہے۔

ڈبیٹ کارڈ سے معاملے کی تکمیف فقہی میں بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ عقد کفالت ہے اور بعض نے اس کو عقد و کالت قرار دیا ہے، مگر اکثر علاما کارجوان یہ ہے کہ یہ از قبیل حوالہ ہے، اس طرح کہ جب خریدار کسی تاجر سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے ذمہ اس کی قیمت واجب ہو جاتی ہے، اور یہ اس پر دین ہے اور یہ شخص اپنا یہ قرض بینک پر حوالہ کرتا ہے اور چوں کہ یہاں بالکل اس کارڈ کو قبول کر رہا ہے اس لیے وہ بھی اس معاملے سے راضی ہے، گویا یہاں محیل وحتاں علیہ تینوں کی رضا سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس طرح کا حوالہ تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے اور پھر اس میں چوں کہ یہ شرط ہوتی ہے کہ کارڈ والے کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہو، اس لیے حوالہ مقید ہے جو سب کے نزدیک جائز ہے۔

مشہور ماہر اقتصادیات شیخ الصدیق الصفری لکھتے ہیں:

”وَ التَّكِيفُ الصَّحِيحُ لَهَا: هُوَ أَنَّهَا عَقْدٌ حَوَالَةٌ، الْبَنْكُ

مصدر البطاقة يقول لحامل البطاقة: ”خُذْ هَذِهِ الْبَطاقة، وَ اشْتَرِ
بِهَا مِنَ النَّاجِرِ، وَ لَا تَدْفَعُ الشَّمْنَ، وَ أَحْلِ النَّاجِرَ عَلَيَّ“، وَ أَنَا أَدْفَعُ
لَهُ“۔ ويقول مصدر البطاقة للناجر: ”بايع حامل البطاقة و أنا
سأدفع لك الشمن“۔ و حامل البطاقة يقول للتجار: ”احملنک
على البنك المصدر هذه البطاقة بالشمن“۔ فإذا حصل الشراء

فقد تمت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها، برضاء الأطراف الثلاثة. وبطاقة الديبت كارد (Debit Card) هذه يكون البنك (مصدر البطاقة) فيها مديناً لحامل البطاقة وهو (المحال عليه)، وحامل البطاقة هو (المحيل)، وهو مدين للناجر (المحال)، فالحالة هذه على مدين، وهي جائزة باتفاق الفقهاء .“
 (اں کارڈ کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ یہ عقد حوالہ ہے، (گویا ایک جانب) بینک جو کارڈ جاری کرنے والا ہے، وہ کارڈ حاصل کرنے والے سے یوں کہتا ہے کہ یہ کارڈ لو اور تاجر سے اس کے ذریعے خریدی کرو اور قیمت ادا کر دوں گا اور (دوسری جانب) کارڈ کو میرے اوپر حوالہ کر دو اور میں اس کو قیمت ادا کر دوں گا اور (تیسرا جانب) کارڈ والا تاجر سے کہتا ہے کہ میں نے قیمت ادا کرنے کے سلسلے میں تجھے بینک پر حوالہ کر دیا ہے جو اس کارڈ کا جاری کرنے والا ہے، پس جب خریدی ہوئی ان تین اطراف کی رضا و خوشی سے حوالہ اپنے تمام ارکان و امور اٹک کے ساتھ پورا ہو گیا اور ڈیبٹ کارڈ میں بینک حاصل بطاقة کا قرض دار ہے اور وہ یہاں محال علیہ ہے اور حاصل بطاقة محیل ہے اور وہ قرض دار ہے تاجر کا جو کو محال ہے، لہذا یہ حوالہ دین پر ہوا جو کہ بااتفاق فقہاء جائز ہے۔) (۱)

اسی طرح دکتور محمد علی القری نے لکھا ہے:

”الأرجح أن العلاقة بين حامل البطاقة و الناجر (الذي يشتري منه بالبطاقة) هي حوالة ، فهو عندما يشتري سلعة ، أو خدمة يتعلّق بذلك بذمتها ، ويكون الناجر دائناً له بذلك

المبلغ، فیحیل الدائن علی ملء، و هو المصدر للبطاقة، و
یُمثّل توقيعه على الفاتورة هذه الإحالة، ويقبل الناجر تلک
الإحالة، فیرسّل الفاتورة إلى المصدر الذي يدفع له المبلغ. و
من المعروف أنَّه لا يُشترط لصحَّة الحوالة أن يكون للمحيل
دِينٌ على المُحال عليه. و الرضا مُتوفَّرٌ بين أطراف هذه العلاقة،
و الدين معلوم، و هو دين لازم على المدين في الحال.“

(راجح یہ ہے کہ حامل بطاقة اور تاجر (جس سے وہ بطاقة کے ذریعے خریدتا
ہے ان دونوں) کے مابین تعلق حوالے کا ہے، لہذا جب وہ کوئی سامان خریدتا
ہے یا کوئی خدمت یعنی سرویز لیتا ہے تو اس کے ذمہ اس کی قیمت متعلق ہو جاتی
ہے اور تاجر اس کو اس قدر مبلغ قرض دیتا ہے اور وہ خریدار اس کو دوسرا قرض
دار پر حوالے کرتا ہے اور وہ بینک ہے اور رسید پر دستخط کرنا اس حوالے کی
نمائندگی کرتا ہے اور تاجر اس کو قبول کرتا ہے اور بینک کے پاس وہ دستخط والی
رسید بھیج دیتا ہے اور بینک اس کو وہ رقم ادا کر دیتا ہے اور معروف یہ ہے کہ محیل کا
قرض محال علیہ پر ہونا شرط نہیں ہے اور یہاں رضا تینوں جانبوں میں پائی
چاہی ہے اور دین معلوم ہے اور وہ فی الحال ادا کرنا قرض دار پر لازم ہے۔ (۱)
الغرض جب یہ معاملہ حوالے کا ہے تو اس کا رو سے رقم ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ
حامل کا رو نے اپنا قرض بینک کے حوالے کر دیا اور بینک نے اس کو قبول کر لیا کہ وہ اس کو ادا
کر دے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس کا رو سے رقم کی ادائیگی کیا قبضے کے حکم میں ہے؟ اس کے
بارے میں علمائے عصر نے اختلاف کیا ہے۔ ایک طبقہ علماء کا اس کو قبضہ مانتا ہے؛ کیوں کہ

(۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد / جزء اول / ۳۰۶

یہاں فوری طور پر حامل کارڈ کے اکاؤنٹ سے رقم تاجر کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کا پورا حساب بھی اسی وقت رسید سے معلوم ہو جاتا ہے۔

فضیلۃ الشیخ وحبة الرحیلی نے اس کو قبضہ مانا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ”بعض الصرف“ کی صورت میں بھی قبضہ تحقیق ہو جانے کا خیال ظاہر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ولذلک يجوز في هذه البطاقة شراء الذهب والفضة والنقد الآخرى ؛ لأنّه يتم فيه الوفاء فوراً، ويتم تحويل الشمن مباشرةً من حساب المشتري حامل البطاقة إلى حساب الناجر البائع ، فيتم القبض الحقيقي والفورى .“

(اور اسی وجہ سے اس (ڈیبٹ کارڈ) سے سونے و چاندی اور دوسروی کرنی کی خریداری جائز ہے؛ کیوں کہ اس کارڈ کی صورت میں ادائیگی علی الفور ہو جاتی ہے اور قیمت کی منتقلی کارڈ والے اس خریدار کے اکاؤنٹ سے تاجر کے اکاؤنٹ میں باقیہ ہاتھ ہو جاتی ہے، لہذا یہاں حقیقی اور فوری قبضہ تحقیق ہو جاتا ہے۔^(۱)

شیخ عبد اللہ بن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث کی بھی یہی رائے ہے، وہ ”بطاقات المعاملات المالية“ میں اس سلسلے میں عدم جواز کی رائے ذکر کرنے کے بعد دوسروی رائے کا یوں ذکر کرتے ہیں:

”الثاني: جواز الشراء بها ؛ لأن شرط الجواز هو التقادص وقد تتحقق التقادص فعلاً في هذه المسئلة عن طريق الحسم من حساب المشتري ، والإيداع في حساب البائع آلياً في نفس اللحظة ، وهذا هو الراجح في هذه المسئلة إن شاء الله تعالى.“

(۱) بطاقات الائتمان للشيخ الرحيلی: ۱۲

(دوسری رائے: اس کا روڈ سے خریداری کا جواز؛ کیوں کہ (نفع الصرف کے) جواز کی شرط یعنی تقاضہ اس صورت میں عملاء خریدار کے اکاؤنٹ سے رقم نکال کر بائع کے اکاؤنٹ میں اسی وقت ڈال دینے سے متفق ہو گئی اور اس مسئلے میں ان شاء اللہ یہی بات راجح ہے۔) (۱)

احقر کی رائے بھی اسی کے موافق ہے کہ یہ حوالہ ہے اور اس حوالے میں چوں کہ مجلس ہی میں فوری طور پر قضہ متفق ہو جاتا ہے، اس لیے یہ قضہ شرعی و حقیقی کے حکم میں ہے؛ بلہ اس سے معاملات صرف بھی انجام دینے میں کوئی مضاائقہ نہیں۔ واللہ اعلم

ಚارج کارڈ (Charge Card)

چارج کارڈ ایک قرض کا کارڈ ہے جو بینک جاری کرتا ہے، مگر اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ کاڑد حاصل کرنے والے کا اکاؤنٹ بینک میں موجود ہو، بلکہ بینک شخصیت کی حیثیت و مقام کو دیکھ کر یہ کارڈ جاری کر دیتا ہے اور حامل کارڈ کو اس کے ذریعے یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ اس کا روڈ سے ایک مقررہ مقدار تک کی رقم سے اپنی خواہش کی چیزیں خریدے اور بعد میں اس کوادا کرے اور جب بھی اس کے ذریعے خریدی کی جاتی ہے تو بینک اپنا کمیشن کاٹ کر بائع کو اس کی باقیہ قیمت اپنی جانب سے ادا کر دیتا ہے اور بعد میں خریدار سے وہ رقم وصول کرتا ہے۔ اس کا روڈ میں عام طور پر ایک مختصر مدت حامل کارڈ کو دی جاتی ہے؛ تاکہ اس مدت میں وہ بینک کا یہ قرضہ ادا کر دے، مثلاً ایک ماہ یا دو ماہ وغیرہ، اگر اس مدت میں اس نے وہ رقم بینک کوادا کر دی تو بینک اس سے کوئی زائد رقم وصول نہیں کرتا اور اگر مدت مقررہ میں ادا نہ کرے تو بینک اس پر زائد رقم وصول کرتا ہے۔ اور اسی لیے علماء میں سے اکثر حضرات اس کارڈ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس میں سود میں بتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(۱) بطاقة المعاملات المالية: ۲۵

کریڈیٹ کارڈ (Credit Card)

یہ کارڈ بھی بینک جاری کرتا ہے اور اس میں بھی اکاؤنٹ کا ہونا لازم نہیں؛ بل کہ بغیر اکاؤنٹ بھی اس کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کارڈ اور چارج کارڈ میں بنیادی کوئی فرق نہیں، صرف یہ فرق ہے کہ چارج کارڈ میں مختصر مدت کے لیے قرض فراہم کیا جاتا ہے اور وہ یک مشت ادا کرنا ہوتا ہے، جب کہ کریڈیٹ کارڈ میں مدت بھی لمبی ہوتی ہے اور قرض بھی زیادہ دیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی قسط وار کی جاسکتی ہے۔

اور ان دونوں کے استعمال کا طریق کاریہ ہوتا ہے کہ خریدار کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو تاجر کے پاس اپنا کارڈ (کریڈیٹ کارڈ یا چارج کارڈ) پیش کرتا ہے اور وہ اس کی ضروری تحقیق و جانچ کے بعد خریدی ہوئی اشیاء کا بل بنا کر اس کارڈ کو مشین میں لگاتا ہے اور اس میں مذکورہ رقم کا اندر راج کرتا ہے، جس پر اس کو رسید اسی مشین سے حاصل ہو جاتی ہے اور وہ خریدار کا اس پر دستخط کر کر ایک اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور دوسرا خریدار کو دیدیتا ہے، پھر وہ اس رسید کو متعلقہ بینک کو تھیج کر اپنی رقم وصول کر لیتا ہے جو اس کو بینک اپنا کمیشن کانٹے کے بعد دیتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان کارڈوں ”چارج کارڈ“ اور ”کریڈیٹ کارڈ“ سے نہن کی ادائیگی کیا قبضہ کہلانے گی؟ اور کیا اس سے بیع الصرف میں بھی کام لیا جاسکتا ہے؟ اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خریدار جب رسید پر دستخط کر دیتا ہے تو اسی وقت اس کی ذمہ داری بینک پر آ جاتی ہے اور اب معاملہ تجارت اور بینک کے مابین رہ جاتا ہے، لہذا اس کارروائی سے یہ سمجھا جائے گا کہ رقم پر تجارت کو قبضہ حکمی حاصل ہو گیا، پھر ان میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف کے معاملات میں بھی یہ قبضہ کافی ہو جاتا ہے۔

یہی رائے علامہ شیخ عبداللہ المتعج کی ہے، وہ اپنی کتاب ”بحوث فی الاقتصاد الاسلامی“ میں فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا شِرَاءُ الْذَّهَبِ بِبِطَاقَةِ الائِتمَانِ ، فَنَظَرًا إِلَى أَنَّ بِطاقةَ الائِتمَانِ تُعْتَبَرُ مُبِرِّئَةً لِلذَّمَةِ بِرَاءَةً كَامِلَةً بَيْنَ الْمُتَصَارِفِينَ ، وَحَقُّ بَائِعِ الْذَّهَبِ بِمَوْجِبِ بِطاقةِ الائِتمَانِ ثَابِثٌ كَبُوْتٌ حَقَّهُ فِي الشِّيكِ الْمُصَدَّقِ مِنْ حِيثِ إِنْ صَاحِبَ الْبِطاقةِ حِينَما يُوقَعُ بِمَوْجِبِهَا عَلَى فَاتُورَةِ الدَّفْعِ لَا يُسْتَطِعُ الرَّجُوعُ فِي تَوْقِيعِهِ ، وَلَا يُسْتَطِعُ مُصْدِرُ الْبِطاقةِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ سَدَادِ القيمةِ عَنْ الْطَّلَبِ مَهْمَا كَانَتْ حَالُ صَاحِبِ الْبِطاقةِ ، وَنَظَرًا إِلَيْهَا فَإِنَّ القَوْلَ بِصَحةِ الْمَصَارِفَةِ بِبِطاقةِ الائِتمَانِ قَوْلٌ وَجِيهٌ يُؤْيِدُهُ أَنْ مَعْنَى الْقِبْضِ مُتَوَافِرٌ فِيهَا ؛ حِيثُ يَتَفَرَّقُ الْمَصَارِفَانِ بِمَوْجِبِهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ . وَمَعَ هَذَا فَالْمُسَأَّلَةُ فِي حَاجَةٍ إِلَى مُزِيدٍ مِنَ النَّظَرِ وَالتَّأْمِيلِ فِي ضَوْءِ التَّصُورِ لِحَقِيقَةِ الْبِطاقةِ الائِتمَانِيَّةِ . وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنَانُ .“

(اور ہاسونے و چاندی کا کریڈیٹ کارڈ سے خریدنا تو اس بات کی جانب نظر کرتے ہوئے کہ کریڈیٹ کارڈ تاجریوں کے درمیان مکمل طور پر براءت ذمہ سمجھا جاتا ہے اور سونا بیچنے والے کا حق کریڈیٹ کارڈ کی وجہ سے اسی طرح ثابت ہے جس طرح اس کا حق تصدیق شدہ چیک کی صورت میں ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ کارڈ والا جب رسید پر دستخط کر دیتا ہے تو اپنے دستخط سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ بینک کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ تاجر کی جانب سے مطالیہ کے وقت قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کرے، خواہ کارڈ والے کا جو کچھ بھی حال ہو، اس طرف نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ کریڈیٹ کارڈ سے بیع الصرف صحیح ہے لائق قبول بات ہے، جس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ قبضے کا معنی اس میں پایا

جاتا ہے، اس طرح کہ یہ یعنی دین کرنے والے جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے مابین کچھ باقی نہیں رہتا۔ تاہم مسئلہ ابھی بھی کریڈٹ کارڈ کی حقیقت کے سلسلے میں مزید غور و فکر کرنا ہے) (۱) اور دکتور زیہ کمال حماد نے اپنی بحث میں لکھا ہے:

”فِإِذَا قَبضَ مُشَتَّرِي الْذَّهَبِ ، أَوِ الْفَضَّةِ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ بِبَطَاقَةِ الائِسْمَانِ ، فَيُعْتَبَرُ التَّقَابِضُ الْمُطَلُوبُ فِي الْبَدَلِينِ مُتَحَقِّقًا ؛ لَأَنَّ تَسْلِمَ الْبَائِعِ قُسْيَمَ الدَّفْعِ الْمُوَقَّعَةِ مِنْ حَامِلِ الْبَطَاقَةِ قَبْضٌ حَكْمِيٌّ لِقِيمَتِهَا ، كَقَبْضِ الشِّيكِ الْمُصَدَّقِ الَّذِي أَفْتَى ”مَجْمُوعُ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ“ بِجُوازِ شَرَاءِ الْذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ بِهِ عَلَى أَنْ يَتَمَّ التَّقَابِضُ فِي الْمَجْلِسِ ؛ بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَمَا أَفَادَ الْفَنَّيُونَ ؛ لِأَنَّهَا مُلْزَمَةٌ لِلتَّاجِرِ ، وَتَبِرَأُ بِهَا ذَمَّةٌ حَامِلِ الْبَطَاقَةِ مِنَ الدِّينِ حَالًا تَجَاهِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ الاعتراضُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهَا . أَضْفِ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ تَمْرِيرِ الْبَطَاقَةِ عَلَى الْجَهَازِ الْآلَى ، يَقْوِمُ عَلَى الْفُورِ بِقِرَاءَةِ شَرِيطِ الْمَعْلُومَاتِ فِيهَا ، وَتَوْصِيلُ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ إِلَى الْحَاسِبِ الْآلَى فِي الْبَنْكِ الْمُصْدِرِ ، الَّذِي يَتَوَلَُّ فِي الْحَالِ قِبْدَ الْمَبْلَغِ عَلَى حِسَابِ الْعَمِيلِ ، وَتَحْوِيلُ الْمَبْلَغِ إِلَى حِسَابِ التَّاجِرِ.“

(پس جب سونا چاندی خریدنے والا سونے و چاندی کی وہ مقدار اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے قیمت بائیع کو دیتا ہے تو بدین پر قبضہ مطلوب متحقق ہو جاتا ہے؛ کیوں کہ بائیع کا رسید کو حاصل کر لینا

(۱) بحوث في الاقتصاد الاسلامي: ۳۲۷

جس پر حامل کارڈ کے دستخط ہو چکے ہوں، یہ اس کی قیمت کا حکمی قبضہ ہے، جیسے ”صدقة چیک“ (Certified cheque) اس کے ذریعے سونے و چاندی کی بیج کو ”جمع الفقه الاسلامی“ نے جائز قرار دیا ہے۔ جب کہ مجلس میں قبضہ کمکمل ہو جائے؛ بل کہ یہ تو اس سے بھی قوی ہے جیسا کہ اہل فن نے بیان کیا ہے؛ کیوں کہ یہ تاجر کے حق میں قیمت کو لازم کرنے والا اور کارڈ والے کو دین کی ذمہ داری سے اسی وقت بری کرنے والا ہے اور تاجر کو اس کارڈ سے ادا نگی پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ مزید یہ بھی ملا جائے کہ جو نبی کارڈ کو مشین پر سے گزارا جاتا ہے تو علی الفور کارڈ میں درج معلومات کو پڑھنے لگتا ہے اور ان معلومات کو بینک میں موجود کمپیوٹر کو تیکھ دیتا ہے جو کارڈ والے کے اکاؤنٹ میں مبلغ کو درج کرنے اور تاجر کے اکاؤنٹ میں وہ رقم منتقل کرنے کا ذمہ دار ہے۔^(۱)

اور شیخ علاء الدین بن عبد الرزاق الجنوئے اپنی کتاب ”الثقابض فی الفقه الاسلامی و أثره علی البيوع المعاصرة“ میں اسی نظریے کی تائید کی ہے۔^(۲) اسی طرح ”بیت التمویل الکویتی“ سے جو اس سلسلہ کی بحث علماء کے درمیان ہوئی ہے اس میں بھی اسی کو اختیار کرتے ہوئے سونے و چاندی یعنی معاملات صرف کے ان کارڈوں کے ذریعے انجام دی کا شرعی حکم بیان کیا ہے:

وَيُعْتَبِرُ مُسْتَنْدُ الْبَيْعِ (فِسِيمَةُ الدَّفْعِ) الَّذِي يُؤْكَدُ عَلَيْهِ
الْعَمِيلُ حَامِلٌ بَطَافَةً ”فِيزَا التَّمُوِيلِ“ وَسِيَلَةً دَفْعَ مُؤَكَّدَةً، وَ
يُصْرَفُ فُورًا حَالَ تَقْدِيمِهِ إِلَى بَنْكِ التَّاجِرِ شَرِيعَةً أَنْ تَكُونُ

(۱) قضايا فقهية معاصرة: ۱۲۰، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد ۱/الجزء: ۵۷/۳

(۲) الثقابض فی الفقه الاسلامی: ۲۷۰

إجراءات البيع و البطاقة سليمة ، كالتأكد من توقيع العميل ، و صلاحية البطاقة ، و الحصول على التفويض اللازم ، و ما إلى ذلك من أمور . وبما أن قسيمة الدفع تتحول الناجر الحصول على المبلغ فوراً عند تقديمها للبنك الذي يتعامل معه الناجر ، فإن ذلك يتحقق شرط التقابل في بيع الذهب والفضة و يعتبر كالدفع بالشيكات و هو جائز شرعاً .”

(اوجہ یا سید جس پرویز اکارڈ والا عميل دستخط کرتا ہے، اسے ادائیگی کا ایک معتبر ذریعہ سمجھا جائے گا اور یہ کارڈ تاجر کی بینک میں جو نبی پیش کیا جائے گا اسی وقت کیش ہو جائے گا، بشرطے کہ بیع اور کارڈ کی تمام کارروائیاں صحیح سالم ہوں جیسے عميل کا دستخط اور کارڈ کی مدت اور جو اختیار دیا گیا ہے اس کا حاصل ہو جانا وغیرہ امور اور اس وجہ سے کہ یہ دستخط شدہ ریسید تاجر کو اپنا مبلغ بینک سے جس سے کہ وہ معاملہ کرتا ہے، فوری طور پر حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، اس لیے اس سے سونے و چاندی کی بیع میں تقابل کی شرط بھی تحقق ہو جاتی ہے اور یہ اسی طرح قبل اعتبار مانا جائے گا جس طرح چیک دینے کا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔⁽¹⁾)

بل کہ ”معايير الشرعية للمؤسسات المالية“ کے باشنس نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ قبضے کی صورتیں بیان کرتے ہوئے قبضہ حکمی کی ایک صورت یہ بیان کی ہے:

”تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري) في الحالة التي يمكن فيها المؤسسة

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد ١٧٣/جزء ١

المُصِدِّرَة لِلبطَّاقَة أَن تَدْفَعُ الْمُبْلَغ إِلَى قَابِلِ الْبَطَّاقَة بِدُونِ أَجْلٍ۔
 (بائع کا رسید وصول کر لینا، جس پر کریڈیٹ کارڈ والے کی جانب سے
 دستخط کیا گیا ہو، جبکہ کارڈ جاری کرنے والے ادارے کو ممکن ہو کہ کارڈ قبول
 کرنے والے تاجر کو اس قدر رقم بالا مہلت دے سکے۔) (۱)

اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ چارچ کارڈ اور کریڈیٹ کارڈ کا استعمال
 ”صرف“ کے معاملات میں نہیں ہو سکتا اور یہ جائز نہیں۔

علامہ صدیق الضریر، شیخ علی السالوں، شیخ مفتی نقی عثمانی وغیرہ حضرات کی بھی رائے
 ہے۔ اور رابطہ عالم اسلامی کے زیر سرپرستی قائم ”مجمع الفقه الاسلامی“ کی قراردادوں
 (۱۰/۲/۱۰۸) میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ (۲)

شیخ وحبة الرحمن رحمه اللہ تکمیلہ میں:

”إِنَّ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا ، وَ
 يُشَرَّطُ فِي شَرَائِهَا وَ صِرْفِهَا التَّقَابْضُ (يَدَأَبِيد) وَلِذَلِكَ لَا
 يَصُحُّ شَرَائِهَا بِبَطَّاقَةِ الائِتمَانِ غَيْرِ المُعَطَّاةِ لِتَأْخُرِ سَدَادِ الشَّمْنِ
 عَنْ وَقْتِ الْعَقْدِ ، وَ يَشْمَلُ ذَلِكَ شَرَاءُ سَائِرِ الْعَمَلَاتِ النَّقْدِيَّةِ
 لَأَنَّ صِرْفَهَا يُشَرَّطُ فِي التَّقَابْضِ ، وَ أَنَّ بَطَّاقَةَ الْخَصْمِ الشَّهْرِيِّ
 تَعْتَمِدُ عَلَى الْأَجْلِ فِي الْوَفَاءِ ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهَا بَعْضُهُمْ (بَطَّاقَةِ
 الْوَفَاءِ الْمُؤَجَّلِ الَّتِي يَتَمَّ فِي نِهايَةِ الشَّهْرِ) الْخَ.“

(سونا اور چاندی ان اموال میں سے ہیں جن میں ربا اور سود جاری ہوتا
 ہے اور ان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں تقابض یعنی معاملے کا ہاتھ درہاتھ

(۱) المعايير الشرعية: ۵

(۲) دیکھو: قرارات المجمع الفقه الاسلامی: ۳۰۵/۲

ہونا شرط ہے اور اسی لیے ایسے کریمیت کارڈ سے جس میں پہلے سے رقم بھری ہوئی نہ ہو، خریدی کرنا صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ من کی بھرپائی عقد کے وقت سے متاخر ہوتی ہے اور یہی حکم تمام قسم کی کرنسیوں کی خریداری کو بھی شامل ہے؛ کیوں کہ ان میں ”صرف“ کا معاملہ کرنے کی صورت میں تقبض شرط ہے۔ اور چارج کارڈ (جس میں ایک ماہ کے اندر رقم جمع کرنا ہوتا ہے) وہ ادائیگی کے لیے ایک مدت کی شرط پر ہی جاری ہوتا ہے؛ اسی لیے بعض نے اس کا نام ”بطاقة الوفاء المؤجل“ رکھا ہے جس میں ماہ کے آخر میں ادائیگی ہوتی ہے۔ (۱)

اور ہا پہلا نظر یہ تو متعدد حضرات علمانے اس کو رد کر دیا ہے، جن میں سے شیخ صدیق الضریری ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”صَدَرَتْ بِعْضُ الْفَتاوِي بِجُوازِ استِعْمَالِ الْبَطاقةِ فِي شَرَاءِ الْذَهَبِ وَ الْفَضَّةِ مِنَ النَّجَارِ مُعَتَمِدَةً عَلَى أَنَّ قُسْمَيْةَ الدَّفْعِ الَّتِي يُوَقَّعُ عَلَيْهَا العَمِيلُ حَامِلُ الْبَطاقةِ تُعْتَبَرُ وَسِيلَةً دَفْعِ مؤَكَّدةٍ تَصْرِفُ فُورًا حَالَ تَقْدِيمِهَا إِلَى الْبَنْكِ النَّاجِرِ ، لِهَذَا فَهِي تُحَوَّلُ التَّاجِرُ حَصْوَلًا عَلَى الْمَبْلَغِ فُورًا مَا يَحْقِقُ شَرْطُ التَّقْبَضِ فِي بَيْعِ الْذَهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَيُعْتَبَرُ كَالدَّفْعِ بِالشِّيكَاتِ وَهُوَ جَائزٌ شَرْعًا.“

”وَ لَا أَوْفِقُ عَلَى هَذِهِ الْفَتَوَى ؛ لِأَنَّ الْفُورِيَّةَ الْمُطَلُوبَةَ شَرْعًا فِي شَرَاءِ الْذَهَبِ وَالْفَضَّةِ غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ فِي الشَّرَاءِ بِالْبَطاقةِ ؛ لِأَنَّ حَامِلَ الْبَطاقةِ عِنْدَمَا يُقْدِمُ الْبَطاقةَ لِلتَّاجِرِ يَتَسَلَّمُ الْذَهَبَ ، وَ يُوَقَّعُ

(۱) بطاقات الائتمان للشيخ الزحيلي: ۱۵

على القسيمة ، لا يدفع الشمن للناجر ، والذى يدفع الشمن للناجر هو بنك الناجر ، أو البنك المصدر للبطاقة عندما يقدم الناجر إليهما القسيمة بعد فترة يتفق عليها ، وهذه الفترة في حالة بنك الناجر تصل إلى ثلاثة أيام من تسلمه قسيمة البيع .”

(بعض فتاوى اس کارڈ سے سونے و چاندی کی خریداری کے جواز پر صادر ہوئے ہیں، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اوج یا رسید جس پر دو ز اکارڈ والا عملی دخیط کرتا ہے، وہ ادائیگی کا ایک معترض ریجسٹر ہے اور یہ کارڈ تاجر کی بینک میں جو نبی میش کیا جائے گا اسی وقت کیش ہو جائے گا، لہذا یہ دخیط شدہ رسید تاجر کو اپنا مبلغ بینک سے جس سے کہ وہ معاملہ کرتا ہے، فوری طور پر حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، اس لیے اس سے سونے و چاندی کی بیج میں تقابل کی شرط بھی تحقق ہو جاتی ہے اور یہ مصدقہ چیک سے خریداری کی طرح ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن مجھے اس فتوے سے اتفاق نہیں ہے؛ کیوں کہ سونے و چاندی کی خرید و فروخت میں جس فوریت کا مطالبہ ہے وہ کریڈیٹ کارڈ سے خریداری میں تتحقق نہیں ہے؛ کیوں کہ کارڈ والا شخص جب تاجر کو وہ کارڈ پیش کرتا ہے تو وہ اسی وقت سونا لے لیتا ہے اور اوج پر دخیط کر دیتا ہے، قیمت تاجر کو ادا نہیں کرتا اور تاجر کو قیمت ادا کرنے والا تاجر کا بینک ہوتا ہے، یا وہ بینک جو کارڈ جاری کرنے والا ہے، یہ بینک تاجر کو اس وقت قیمت دیتا ہے جب وہ ایک مدت کے بعد اوج اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ مدت تاجر کی بینک ہونے کی صورت میں اوج پیش کرنے سے تین دن تک ہوتی ہے۔^(۱))

اسی طرح حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اس سے اختلاف کیا ہے، انھوں

(۱) مجلة الفقه الاسلامي: عدد ۱۲، جزء ۳: ۶۱۲/۳

نے جو فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خریدار جب رسید پر دخنخ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ خریدار نے اپنا قرضہ بینک کے حوالے کر دیا اور وہ بری الذمہ ہو گیا؛ مگر اس قدر بات سے رقم پر قبضہ نہیں ہو جاتا، رقم پر قبضہ اور چیز ہے اور براءت ذمہ دوسرا چیز ہے، یہاں صرف براءت ذمہ ہوتا ہے، نہ کہ قبضہ؛ کیوں کہ خریدار نے یہاں صرف بینک پر اپنا قرضہ حوالہ کر دیا ہے اور بینک جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس کو قبضہ نہیں کہہ سکتے اور یہاں ڈرافٹ والی صورت منطبق نہیں ہوتی، کیوں کہ یہاں بینک نے خریدار سے کوئی چیز وصول نہیں کی ہے، جیسا کہ ڈرافٹ میں ہوتا ہے، تاکہ یہ کہا جاسکے کہ بینک نے باعث کی جانب سے شمن پر قبضہ کر لیا اور وکیل کا قبضہ مولک کا قبضہ ہے۔ الغرض یہاں ڈرافٹ والی بات صادق نہیں آتی۔ (۱)

اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ چارچنگ کا رڑ اور کریڈیٹ کا رڑ سے معاملے کی صورت میں فوری طور پر شمن باعث کے قبضے میں نہیں جاتا، اس لیے ان کا رڑوں سے معاملہ میں قبضہ متحقق نہیں ہوتا، لہذا اعمالات صرف میں ان کا استعمال درست نہیں۔

چھٹا اصول - مبلغ کی سپردگی

مبلغ کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح خریدار پر شمن کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح فروخت کرنے والے پر مبلغ (خریدی ہوئی چیز) کی خریدار کے حق میں سپردگی ضروری ہے۔

نقہاء نکھاہے کہ:

”وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِشَمْنٍ قِيلَ لِلْمُشْتَريِ : سَلَمٌ الشَّمْنَ أَوْلًا“

فِإِذَا دَفَعَ الشَّمْنَ قِيلَ للبَايِعِ : سَلَمٌ الْمَبِيعُ“ (۲).

(۱) دیکھو: فقه البيوع: ۳۶۷/۱

(۲) دیکھو: الجوهرة النيرة: ۲۱۵/۲، الباب في شرح الكتاب: ۹۳۱

(جو شخص متن کے بد لے کوئی سامان خردے تو پہلے خریدار سے کہا جائے گا
کہ قیمت ادا کرو اور جب وہ قیمت ادا کر دے گا تو بینچے والے سے کہا جائے گا
کہ بینچے اس کے حوالے اور اس کی قیمت ادا کر دکرو)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خریدار نے چیز کی قیمت ادا کر دی تو بالع پر لازم ہو گیا کہ وہ
خردی ہوئی چیز خریدار کے حوالے کر دے اور معاملہ صاف ہو جائے، لہذا اپنے ادا کر دیا تو کوئی
حرج نہیں۔ لہذا ایساں بھی لازم ہے کہ جب خریدار کوئی بھی چیز خریدے اور اس کی قیمت ادا
کر دے تو بینچے والا اس چیز کو اس کے حوالے کر دے۔

الکڑا نک کاروبار میں بینچے کی سپردگی

الکڑا نک کاروبار میں دو طرح کی چیزیں خریدی جاتی ہیں: ایک غیر مادی چیزیں، جیسے
کوئی پروگرام خریدا جائے جو خود کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، اگر ایسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کر دیا
تو بینچے کی سپردگی متفق ہو گئی اور اس پر قبضہ بھی تحقق ہو گیا۔

دوسری عام مادی اشیاء، ان میں لازم ہے کہ وہ چیز کسی بھی طریق سے بالع خریدار تک
پہنچائے اور چوں کہ اس میں عام طور پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ کب اور کہاں پہنچانا ہے، لہذا
اسی طے شدہ نظام کے مطابق اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہو گی۔

قبضے کی حقیقت

اب سوال یہ ہے کہ ”قبضے“ کی تعریف اور حقیقت کیا ہے؟ ”قبضے“ کے لغوی معنی تو
ہیں: ”تناول الشیء بجمعیع الکف“ (کسی چیز کو اپنے پورے ہاتھ سے لے لینا)، جیسے
کہتے ہیں: ”قبضُ السیف“ (میں نے ہاتھ میں تواری) یا کہا جاتا ہے: ”قبضِ المال“
(اس نے مال لے لیا)۔

اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں:

”حيازة الشيء والتمكّن منه سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن.“

(کسی چیز کو اپنی ملکیت میں لینا اور اس پر قدرت پالینا خواہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جو ہاتھ سے لی جاسکتی ہیں یا ان میں سے ہو جن کو ہاتھ سے لینا ممکن نہ ہو۔) (۱)

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدائع الصنائع“ میں لکھا ہے:
 وَالْقَبْضُ عِنْدَنَا هُوَ التَّخْلِيَةُ، وَالتَّخْلِيَةُ وَهُوَ أَنْ يُخْلِي الْبَائِعَ
 بَيْنَ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ بِرَفْعِ الْحَائِلِ بِئْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ
 يَعْمَكُنْ الْمُشْتَرِيُّ مِنْ التَّصْرُفِ فِيهِ فَيُجَعِّلُ الْبَائِعَ مُسَلِّمًا لِلْمَبِيعِ،
 وَالْمُشْتَرِيُّ قَابِضًا لَهُ۔

(قبضہ ہمارے نزدیک تخلیہ کا نام ہے اور تخلیہ یہ ہے کہ بیچنے والا بیع اور خریدار کے درمیان سے رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے۔ اس طرح راست صاف کر دے کہ خریدار اس چیز میں اصراف پر قدرت پائے، لیں اس وقت باع کو بیع کے سپرد کرنے والا اور خریدار کو قبضہ کرنے والا قرار دیا جائے گا۔) (۲)
 اور امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط میں لکھا ہے:

”والقبض عبارة عن الحيازة، وهو أن يصير الشيء في حيز القابض.“

(قبضہ حیازہ کا نام ہے اور حیازہ یہ ہے کہ چیز ملکیت و قدرت میں آجائے۔) (۳)

(۱) الموسوعة الفقهية: ۲۵۷/۳۲

(۲) بدائع الصنائع: ۳۹۸/۳

(۳) المبسوط: ۱۱۳/۱۲

اور الباب فی شرح الکتاب میں ہے:

”ثُمَّ التَّسْلِيمَ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَبْضِ بِلَا مَانِعٍ
وَلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ حَكْمًا، لَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كَلْفَةٍ.“
(پھر تسلیم یعنی سپردگی اس طرح تخلیہ کر دینے سے ہو جاتی ہے کہ اس چیز
کے قبضے پر قدرت مل جائے؛ کیوں کہ تخلیہ حکماً قبضہ ہے، اگر اس چیز پر بلا تکلف
قدرت ہو جائے۔) (۱)

اور علامہ ابن الہمام نے ”فتح القدير“ میں ”تجزید“ کے حوالے سے فرمایا:
”تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَنْ يُخْلِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ
مِنْ قَبْضِهِ بِغَيْرِ حَائِلٍ.“

(مبيع کی سپردگی یہ ہے کہ خریدار اور مبيع کے درمیان راستہ صاف کر دے
اس طرح کہ اس کو بغیر حائل کے اپنے قبضے میں لیا جاسکے۔) (۲)

اور علامہ ابن حمیم مصری ”البحر الرائق“ میں اور علامہ شیخ زادہ نے مجمع الانہر
میں بحول تحریر تحریر فرمایا کہ:

”وَأَمَّا مَا يَصِيرُ بِهِ قَابِضًا حَقِيقَةً فَفِي التَّجْزِيدِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَنْ
يُخْلِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ بِغَيْرِ حَائِلٍ“
(رہی یہ بات کہ کس چیز سے حقیقت آدمی قابض ہو گا تو تجزید میں لکھا ہے
کہ مبيع کی سپردگی یہ ہے کہ خریدار اور مبيع کے درمیان راستہ صاف کر دے اس
طرح کہ اس کو بغیر حائل کے اپنے قبضے میں لیا جاسکے۔) (۳)

(۱) الباب شرح الكتاب: ۱۹۳.

(۲) فتح القدير: ۲۹۷/۶.

(۳) البحر الرائق: ۳۳۲/۵، مجمع الانہر: ۳۲۳.

حاصل یہ ہے کہ قبضہ نام ہے کسی بھی چیز پر اختیار و تصرف کے حاصل ہو جانے کا، جس کی وجہ سے انسان اس چیز میں بلا کسی مانع کے تصرف کر سکے۔

قبضے کی اقسام اور صورتیں

پھر یہ بات بھی فقہائے کرام کے بیہاں متفق علیہ ہے کہ قبضہ جس طرح حصی ہوتا ہے اسی طرح حکمی و اعتباری بھی ہوتا ہے، نیز قبضہ جس طرح اصلی ہوتا ہے اسی طرح غیر حصی بھی ہوتا ہے۔ پھر قبضہ کس صورت سے متفق ہوتا ہے، اس میں فقہاء کا کلام مختلف ہے۔

شافعیہ و حنبلہ کے بیہاں قبضہ مختلف چیزوں کے لحاظ سے الگ الگ طریقہ پر ہوتا ہے۔ مکملی و موزونی چیزوں میں کیل و وزن کر دینا قبضہ ہے اور جو چیز اندازے سے پیچی جائے اس میں اس چیز کو منتقل کر دینا قبضہ ہے اور کپڑے میں بھی اس کو منتقل کر دینا قبضہ کہلاتا ہے اور دراہم و دنایر، روپیہ و پیسہ میں ہاتھ میں دے دینا قبضہ ہے اور جانور میں اس کی جگہ سے اس کو ہنکار دینا قبضہ ہے اور زمین میں احتفاف کی طرح تخلیہ کافی ہے۔

علامہ ابن قدامة الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ:

”وَقَبْضٌ كُلُّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا،
بِسْعَ كَيْلًا، أَوْ وَرْدًا، فَقَبْضُهُ بِكَيْلِهِ وَوَرْدِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ،
وَقَالَ أَبُو حِنْفَةَ: التَّخْلِيَّةُ فِي ذَلِكَ قَبْضٌ.“

(ہر چیز کا قبضہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے، پس اگر کوئی ناپی جانے والی یا تو لی جانے والی چیز ہو تو اس کو قول کریا تاپ کر بیجا جائے گا؛ لہذا ان کا قبضہ تولئے اور ناپنے سے ہو گا اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تخلیہ ہی ان میں قبضہ شامل ہو گا۔ (۱))

لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے کہ تخلیہ مع

التمیز سے ہر چیز میں قبضہ متحقق ہو جاتا ہے۔
علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وَقَدْ رَوَى أَبُو الْخَطَابِ عَنْ أَخْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّ الْقَبْضَ
فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالْتَّخْلِيلِ مَعَ التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُبِينِ
مِنْ عَيْرِ حَائِلٍ، فَكَانَ قَبْضًا لَهُ، كَالْعَقَارِ.“

(اور ابوالخطاب نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسری روایت یہ نقل کی
کہ قبضہ ہر چیز میں تخلیہ سے ہو جاتا ہے جبکہ چیز ممتاز ہو جاتی ہو؛ کیوں کہ بالع
نے خریدار اور میتھ کے درمیان بلا کسی حائل کے راستہ صاف کر دیا، لہذا یہ قبضہ
کرنے والا شمار ہو گا جیسے جائیداد میں ہے۔) (۱)

پھر امام ابن قدامہ نے وہ تفصیل درج کی ہے جو اونچے نقل کی گئی کہ کس چیز میں قبضہ کس
طرح شمار کیا جاتا ہے۔

علامہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ”قواعد الاحکام“ میں اسی قسم کی
تفصیل بلا اختلاف ذکر کی ہے، وہ قبضے کی صورتوں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”أَحَدُهَا: الْمُنَاوِلَةُ فِيمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِمُنَاوِلَتِهِ كَالْحُلْلِيُّ وَ
الْجَوَاهِرُ: النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَا يُنْكِنُ نَقْلُهُ كَالْعَقَارُ، وَ إِقْبَاضُهُ
بِتَمْكِينِ الْقَابِضِ مِنَ الْمُقْبِضِ مَعَ إِزَالَةِ يَدِ الْمُقْبِضِ وَتَمْكِينِ
الْقَابِضِ مِنَ الْقَبْضِ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِنَقْلِهِ وَهُوَ
ضَرْبَانٌ: أَحَدُهُمَا مَا يَسْتَحِقُ كَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ، فَقَبْضُهُ بِكَيْلٍ مَكِيلٍ
وَوَزْنٍ مَوْزُونٍ، ثُمَّ نَقْلِهِ بَعْدِ تَقْدِيرِهِ. الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا جَرَتِ
الْعَادَةُ بِنَقْلِهِ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ، وَ لَا وَزْنٍ، كَالْمَتَاعُ وَ النَّحَاسُ وَ

(۱) المغني: ۱۷۶۲-۱۸۷۱

الرَّصَاصُ وَ نَحْوُهَا ، فَقِصْدُهُ بِنَفْلِهِ إِلَى مَكَانٍ لَا يَخْتَصُ بِبَيَانِهِ ، وَ لَا تَكْفِي فِيهِ التَّخْلِيلَةُ عَلَى الْأَصْحَاحِ . النَّوْعُ الرَّابُّ : التَّمَارُ عَلَى الْأَشْجَارِ إِذَا أَبْيَثُ ، وَ بَدَا صَلَاحُهَا ، وَ الْأَصْحَاحُ أَنْ تَخْلِيلَهَا قِبْضَ لَهَا .”

(ایک صورت یہ ہے کہ جن چیزوں میں مناولہ یعنی ہاتھ سے لے لینے کی عادت ہے جیسے زیورات اور جواہرات، ان میں مناولہ یعنی ہاتھ سے لینا قبضہ ہے، دوسرے یہ کہ جن چیزوں کو منتقل کرنا ممکن نہ ہو، ان میں قبضہ دینے والے کا اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے قبضہ لینے والے کو قبضہ دے دینا اور قبضہ لینے والے کا قبضے پر قدرت پالینا، تیسرے وہ چیز جس کو منتقل کرنے کی عادت ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جس میں ناپ قول ضروری ہو، پس اس میں قبضہ قول دینے اور ناپ دینے سے، پھر اندازہ کر کے اس کو وہاں سے منتقل کر دینے سے ہوگا، دوسری قسم وہ ہے جس کو ناپ قول کے بغیر ہی منتقل کر دینے کی عادت ہے، جیسے عام سامان، تابا، رانگا وغیرہ، ان کا قبضہ ان کو اسی جگہ منتقل کر دینے سے ہوگا جو بچنے والے سے خصوصیت نہ رکھتی ہو اور ایسی چیزوں میں اصح قول کے مطابق تحفظ تخلیہ کافی نہ ہوگا اور چوتھے درختوں پر پھل، جب وہ پک جائیں اور ان کا فائدہ ظاہر ہو جائے تو ان میں اصح یہ ہے کہ تخلیہ ان کا قبضہ ہے۔ (۱)

امام خطابی نے ”معالم السنن“ میں یہی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں:

”الْمَقْبُوضُ يَخْتَلِفُ فِي الْأَشْيَاءِ حَسْبَ اخْتِلَافِهَا فِي أَنْفُسِهَا وَ حَسْبَ اخْتِلَافِ عَادَاتِ النَّاسِ فِيهِ: فَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِأَنْ يُوضَعُ الْمَبِيعُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِالْتَّخْلِيلَةِ بَيْنَهُ ، وَ بَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِالنَّقْلِ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ

بِأَنْ يُكَالُ ، وَذَلِكَ فِيمَا يَبْعَدُ مِنَ الْكَيْلِ كَيْلًا ، فَأَمَّا مَا يُبَاعُ مِنْهُ
جُزَّاً فَأَصْبَرَةٌ مَضْبُورَةٌ عَلَى الْأَرْضِ ، فَالْقَبْضُ فِيهِ أَنْ يُنْقَلُ وَ
يُحَوَّلُ مِنْ مَكَانٍ .”

(قبضہ کی جانے والی چیز اپنی ذات کے لحاظ سے مختلف ہونے اور لوگوں کی
عادات کے مختلف ہونے ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے: پس بعض وہ ہیں
جن میں قبضہ اس طرح ہوتا ہے کہ خریدنے والے کے ہاتھ میں بیچ رکھ دی
جائے اور بعض وہ ہیں کہ ان میں خریدار اور بیع کے درمیان تخلیہ کر دینے سے
قبضہ ہوتا ہے اور بعض وہ ہیں جن میں اپنی جگہ سے منتقل کر دینے سے قبضہ ہوتا ہے
اور بعض وہ ہیں کہ ان میں ناپنے تو نے سے قبضہ ہوتا ہے اور یہ ان چیزوں کی
میں ہے جن کو ناپ قول کر بیچا جاتا ہے، اور یہی وہ چیزیں جن میں اندازے سے
زمیں پر ڈھیر لگا کر بیچا جاتا ہے تو ان میں قبضہ یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ سے منتقل
کر دیا جائے۔ (۱)

الحاصل یہ کہ قبضہ مختلف صورتوں سے ہو سکتا ہے اور یہ ہر چیز کے حسب حال ہوتا ہے،
اور اس کا مدار عرف و عادت پر ہے کہ جس صورت کو کسی چیز کے سلسلے میں قبضہ شمار کیا جاتا ہے
وہ اس کا قبضہ ہے، اگرچہ کہ دوسری چیز کے سلسلے میں اس کو قبضہ شمار نہ کیا جاتا ہو۔
حنفی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ مختلف قسم کی چیزوں میں اور صورتوں میں قبضہ کی شکلیں مختلف
ہوتی ہیں، علامہ ابن عابد یعنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”أَنَّ التَّخْلِيلَ قَبْضٌ حُكْمًا لَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كُلْفَةٍ ؛ لِكِنْ

ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ حَالِ الْمَبْيَعِ ، فَفِي نَحْوِ حِنْطَةٍ فِي بَيْتٍ
مَثَلًا فَدَفْعُ الْمِفْتَاحِ إِذَا أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةٍ قَبْضٌ ، وَفِي نَحْوِ

(۱) معالم السنن للخطابی: ۱۳۲/۳

دارِ فالقلرَةُ عَلَى إِغْلاقِهَا قَبْضٌ أَيْ بَأْنَ يَكُونُ فِي الْبَلْدِ فِيمَا يَظْهُرُ،
وَفِي نَخْوِ بَقْرِ فِي مَرْعَى فَكُونُهُ بِحَيْثُ يُرَى وَيُشَارُ إِلَيْهِ قَبْضٌ وَفِي
نَخْوِ ثُوبٍ، فَكُونُهُ بِحَيْثُ لَوْ مَذِيدَةَ تَصِلُّ إِلَيْهِ قَبْضٌ، وَفِي نَخْوِ
فَرِسٍ أَوْ طَيْرٍ فِي بَيْتٍ إِمْكَانُ أَخْذِهِ مِنْهُ بِلَا مُعِينٍ قَبْضٌ.

(بلاشبہ تخلیہ حکما قبضہ ہے، اگر اس چیز پر بلا تکلف قدرت کے ساتھ ہو؛
لیکن یہ قبضہ بیع کی حالت و کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، پس مثال کے
طور پر گھر میں رکھی ہوئی گیہوں جیسی چیز میں گھر کی کنجی دے دینا جبکہ بلا تکلف
اس کو کھول سکتا ہو یہ قبضہ ہے۔ اور گھر جیسی چیز میں اس کے مقتول کرنے کی
قدرت ہو تو یہ قبضہ ہے، یعنی جبکہ وہ گھر شہر میں ہو جیسے کہ ظاہر ہے اور چراگاہ
میں موجود گائے جیسی چیز میں اس کا ایسی جگہ ہونا کہ اس کو دیکھا اور اس کی
جانب اشارہ کیا جاسکے قبضہ ہے اور کپڑے جیسی چیز میں اس کا اس طرح ہونا
کہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا سکے، قبضہ ہے اور گھر کے اندر کے گھوڑے یا
پرندے جیسے چیز میں اس کو بلا کسی مدد کار کے لئے سکنا قبضہ ہے۔ (۱)
درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام میں قبضے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً:
(۱) کپڑا خریدا اور بالع نے خریدار کو قبضہ کر لینے کی اجازت دے دی اور وہ خریدار سے
اتنا قریب تھا کہ وہیں سے اٹھے بغیر اس کو لے سکتا تھا تو اس کو قبضہ مانا جائے گا اور اگر اس قدر
دور تھا کہ اٹھے بغیر اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا تو یہ قبضہ نہیں شمار ہوگا۔ (۲)

(۲) ایک شخص نے دو چالکوں والا دروازہ خریدا یا جوتے خریدا اور بالع نے ایک
چالک یا ایک جوتا توحالے کیا، دوسرا نہیں تو اس کو قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے اگر یہ

(۱) الرد المختار ۵۶۲/۳

(۲) درر الحکام: ۲۱۶/۱

تلف ہوگا تو باائع کے مال سے ضائع سمجھا جائے گا۔ (۱)

(۳) گھر خریدا جس میں باائع کا سامان موجود ہے یا کھیت خریدا جس میں باائع کی کھیتی ہے اور باائع نے کہہ دیا کہ قبضہ کرو تو یہ قبضہ شمارہ ہو گا جب تک کہ وہ گھر سے اپنا سامان نہ اٹھا لے الایہ کہ باائع اپنے سامان کو پہلے اس خریدار کے پاس امانت رکھ دے پھر قبضہ دے، تو یہ درست ہے۔ (۲)

(۴) گیہوں خریدا جو باائع کی بوری میں رکھی ہوئی ہے تو یہ بات متعین پر قبضہ میں کوئی مانع نہیں، اسی طرح درخت پر پھل خریدا تو یہ بات بھی تسلیم میں مانع نہیں، اگر باائع اسی حال میں اس کو قبضہ دے تو یہ قبضہ مانا جائے گا۔ (۳)

(۵) ایک شخص نے مشک میں سر کر دیجا اور خریدار نے اس کو لے کر مشک کا منہ بند کر دیا تو یہ قبضہ سمجھا جائے گا۔ (۴)

(۶) زمین خریدا اور خریدار خود اسی زمین میں تھا تو باائع کا قبضہ کر لینے کی اجازت دینا خود قبضہ مانا جائے گا اور اگر خریدار زمین سے باہر تھا تو دیکھا جائے گا، اگر وہ اتنا قریب تھا کہ اس کا دروازہ بند کر سکتا اور تالاگ سکتا تھا تو اس کو قریب ورنہ بعد مانا جائے گا اور بیعد ہونے کی صورت میں باائع کا اجازت دینا قبضہ نہیں سمجھا جائے گا؛ مگر اس قدر وقت گزرنے کے بعد کہ وہ وہاں پہنچ سکے۔ (۵)

(۷) جس زمین کا تالا ہواں کی کنجی حوالے کر دینا قبضہ شمارہ ہو گا جبکہ وہ اسی تالے کی کنجی ہو اور اگر وہ اس کی کنجی نہ ہو تو اس کو قبضہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ (۶)

(۱) درر الحکام: ۲۱۲/۱

(۲) درر الحکام: ۲۱۲/۱

(۳) درر الحکام: ۲۱۷/۱

(۴) درر الحکام: ۲۱۷-۲۱۸

(۵) درر الحکام: ۲۱۹/۱

(۸) جانور میں قبضہ یہ ہے کہ اس کا کان یا سر وغیرہ پکڑ کر دے دے، اسی طرح اگر جانور کسی جگہ ہوتا وہاں جا کر اس کو بلا مشقت اپنے قبضے میں کر لینے کی گنجائش ہو اور باعث وہ جگہ دکھا کر کہہ دے کہ اس کو قبضہ کرلو۔ (۱)

(۹) دکان پر پہنچ کر اگر خریدار نے باعث کو حکم دیا کہ یہ توں دینا یا اس کو ناپ دینا اور باعث نے اپنے برتن میں جو اسی کام کے لیے موضوع ہے، توں دیایا ناپ دیا تو یہ بھی قبضہ شمار ہو گا اور یہ قبضہ ضمی کہلاتا ہے، کیوں کہ خریدار اس سے ان چیزوں کا مالک ہو گیا؛ لہذا ان چیزوں کا تولے یا ان پنے کا حکم اسی کی جانب منسوب ہو گا، اس طرح یہ قبضہ ضمی شمار کیا جائے گا۔ (۲)

(۱۰) خریدار گیہوں کی دکان پر پہنچا اور باعث کو گیہوں پسینے کا حکم دیا تو یہ بھی قبضہ مانا جائے گا اور اس کو بھی ضمی قبضہ کہتے ہیں۔ (۳)

(۱۱) اگر باعث نے خریدار کے حکم سے بیچ کو خریدار ہی کے کسی کام میں استعمال کر دیا تو یہ بھی قبضہ سمجھا جائے گا۔ (۴)

ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی اور واضح ہوتی ہے کہ قبضہ مختلف چیزوں میں مختلف صورتوں سے اور مختلف اندازے ہوتا ہے۔

قبضے کی مختلف صورتوں کا خلاصہ

فقہائے کرام کے ممالک کی اس تفصیل کے بعد مناسب ہے کہ ان تمام صورتوں کا خلاصہ حسب ”الموسوعة الفقهية“ لکھ دیا جائے۔ ”الموسوعة الفقهية“ میں حضرات فقہائے کرام کے ممالک کا خلاصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:

(۱) درر الحکام: ۲۲۰/۱

(۲) درر الحکام: ۲۲۰/۱

(۳) درر الحکام: ۲۲۰/۱

(۴) درر الحکام: ۲۲۱/۱

میمع دو قسم کی ہو سکتی ہے: غیر منقول یا مقتول، غیر منقول جیسے زمین، مکان و دکان میں
قبضہ بالاتفاق فقہاء تخلیہ و تمکن سے ہوگا۔

اور منقول اشیا میں قبضہ کے بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے، جمہور فقہاء نے
منقولات کی الگ الگ قسمیں کی ہیں کہ

- (۱) بعض وہ ہیں جو ہاتھ سے لی جاسکتی ہیں۔
 - (۲) بعض وہ ہیں جو ہاتھ سے نہیں لی جاسکتیں۔
- پھر جو ہاتھ سے نہیں لی جاسکتیں ان کی دو قسم ہیں:
- (۱) ایک وہ جن میں عقد بیع کے اندر مقدار کا اعتبار نہیں۔
 - (۲) دوسری وہ جن میں مقدار کا لاحاظہ ہوتا ہے۔

ان میں سے پہلی صورت جس میں عموماً ہاتھ سے قبضہ ہوتا ہے جیسے روپیہ پیسہ، کپڑے،
زیورات وغیرہ تو ان میں فقہاء شافعیہ و مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قبضہ ہاتھ سے لینے کی
صورت میں ہوگا۔

دوسری صورت جس میں اشیائے منقولہ میں کوئی مقدار مطلوب و معترض نہیں ہوتی، جیسے
سامان، برتن، چوپائے، ان میں مالکیہ کہتے ہیں کہ عرف پر مدار ہے اور شافعیہ اور حنابلہ کہتے
ہیں کہ ان میں قبضہ ان چیزوں کو منتقل کر دینے سے ہوتا ہے۔

اور تیسرا صورت جس میں اشیائے منقولہ میں کوئی مقدار مطلوب و معترض ہوتی ہے، جیسے
گیہوں، چاول وغیرہ کی کوئی خاص مقدار خرید کی جائے یا کوئی عددی چیز عدد کے حساب سے
جائے تو فقہاء شافعیہ و مالکیہ و حنابلہ تینوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں مقررہ مقدار کی
وصولی پر قبضہ تحقیق ہوگا اور شوافع اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ یہ چیزوں منتقل کردی
جائیں۔ اور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ منقولات پر قبضہ کسی ہاتھ سے لینے کی صورت سے ہوتا
ہے اور کبھی اس طرح تخلیہ کر دینے سے ہوتا ہے کہ اس پر تصرف کا اختیار مل جائے۔ (۱)

(۱) الموسوعة الفقهية: ۲۳/۲۶۱-۲۶۹

اس سلسلے میں اولاً یہ سمجھنا ہے کہ انظر نیت سے ہونے والا کاروبار یا تو ان چیزوں میں ہو گا جو خود انظر نیت سے حاصل کی جاسکتی ہیں، جیسے کوئی ڈیجیٹل پروگرام، ڈیجیٹل قرآن یا کوئی حسابات وغیرہ سے متعلق سافٹ وری وغیرہ، ایسی چیزوں کا قبضہ اس وقت شمار ہو گا جب وہ پروگرام اور سافٹ وری نیت کے ذریعے وصول ہو جائے گا۔

اور اگر انظر نیت سے خریداری ایسی چیزوں کی ہو جو عام ہیں، جیسے کپڑا، فرنچ، پنکھا، واشنگ مشین وغیرہ تو ان میں قبضے کی وہی صورت مقرر ہے جو اور پر بیان کی گئی، لہذا ایسی چیزوں کا نیت پر آڈر دینے کے بعد وہ چیز ان ذرائع سے حاصل ہونا چاہئے جو عادی ذرائع ہیں۔

ایک انتباہ

یہاں ایک اہم مسئلہ یہ قابل لحاظ ہے کہ بیع میں یہ بات لازم ہے کہ وقت عقد بیع موجود ہو معدوم نہ ہو؛ کیوں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے افہم لفظ مسلم نے ایسی چیز کی بیع سے منع کیا ہے جو موجود و مقبوض نہ ہو۔

مگر الکرمانیک کاروبار میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ چیز موجود و مقبوض نہیں ہوتی؛ لیکن بیچنے والا اس بھروسے بیچتا ہے کہ کہیں سے خرید کر دیوں گا۔ لہذا خریدنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ باعث کے پاس وہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں؟ اور وہ مقدور اتفاقیم بھی ہے یا نہیں؟

ساتواں اصول - بیع کا علم اور تعین

بیع و تجارت کا ایک اصول یہ ہے کہ بیع معلوم و متعین ہو، اگر بیع معلوم و متعین نہ ہو، بلکہ مجهول ہو تو یہ بات صحت بیع میں خلل انداز ہوگی۔ لہذا یہ لازم ہے کہ بیع مجهول نہ ہو، ورنہ معاملہ فاسد ہو گا۔ پھر یہ جہالت کبھی جنس بیع میں ہوتی ہے اور کبھی تعین میں ہوتی ہے، جس بیع میں جہالت کی مثال جیسے کوئی کہے کہ جس چیز پر تنکری پڑے وہ فروخت کرتا ہوں تو یہاں بیع کی جس سی نامعلوم ہے، کیونکہ تنکری کس پر پڑے گی معلوم نہیں، اور تعین میں جہالت کی

مثال یہ ہے کہ بکری کے ریوڑ میں سے ایک کو یقین تو یہاں اگرچہ کہ بکری کی جنس معلوم و متعین ہے، مگر خود کوئی بکری، یہ متعین نہیں، لہذا یہاں تعین میں جہالت ہے۔ لیکن تعین میں جہالت وہیں مضر ہے جہاں متعین مختلف انداز کی ہوتی ہو جیسے بڑی، چھوٹی وغیرہ کا اس میں فرق ہو اور اگر کوئی فرق نہ ہو تو پھر تعین کا نہ ہونا مضر نہیں ہے۔

اسی نیمیا در پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر گیہوں کے ڈھیر میں سے ایک قفسیز گیہوں کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ گیہوں کے ڈھیر کی قفسیوں میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ سب کی سب مثالیں ہوا کرتی ہے، لیکن بکری کے ریوڑ میں سے ایک بکری، یا چند کپڑوں میں سے ایک کپڑا فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بکری اور کپڑے متفاوت ہوا کرتے ہیں۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں کہ:

”ولو قال: بعْتُكَ قَفِيزاً مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ
قَفِيزاً مِنْ صُبْرَةٍ مَجْهُولًا ؛ لَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ لَا تُفْضِي إِلَى
الْمُنَازِعَةِ ؛ لَائَ الصُّبْرَةِ الْوَاحِدَةِ مُتَمَاثِلَةُ الْقُفَزانِ ، بِخَلَافِ الشَّاةِ
مِنَ الْقَطْبِيعِ ، وَثُوبُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ ؛ لَائَ بَيْنِ شَاةٍ وَشَاةٍ تَفَاوْتاً
فَاحْشَا ، وَكَذَا بَيْنَ ثُوبٍ وَثُوبٍ“ (۱)

جب یہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھنے کہ ”الکرآنکہ کاروبار“ میں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر متعین معلوم اور متعین ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، اور اگر متعین کی جنس یا تعین میں جہالت ہوگی تو یقین تصحیح نہ ہوگی؛ مگر چونکہ ”الکرآنکہ کاروبار“ میں بھی متعین معلوم ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کوئی ہے، لہذا یہ کاروبار بھی جائز ہے۔

بنی بالصفة والبرامح کا حکم

اس ضمن میں ایک اہم مسئلہ عرض کردیا مناسب ہو گا کہ عام طور پر الکرآنکہ کاروبار

(۱) بداع الصنائع: ۲۶۷/۱

میں یہ ہوتا ہے کہ کاروباری ویب سائیٹ پر چیزوں کی مکمل تفصیلات دی ہوئی ہوتی ہیں: قیمت، صفت و نوعیت، سائز و جنم وغیرہ، سب بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی خریدنا چاہتا ہے تو انہی تفصیلات کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے اور خریدتا ہے۔

اس طرح کی بیع کو فقہاء کے یہاں ”بیع بالصفة“ کہا جاتا ہے اور بعض فقہاء اس کو ”بیع على الصفات والبرامج“ سے بھی تعبیر کیا ہے، چنانچہ مالکی فقیہ ابن الجلاب نے اپنی کتاب ”التفریع“ میں اس کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔

یہاں سوال یہ ہے کہ بیع کو دیکھے بغیر صرف اس کی صفات کی بنیاد پر بیع کرنے جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

اکثر حضرات فقہاء کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کسی سے ایسی چیز خریدی جائے جو مجلس عقد میں موجود نہ ہو، مگر اس کی صفت اس طرح بیان کردی جائے کہ جہالت باقی نہ رہے۔ حفیہ کے یہاں تو اس میں مزید گنجائش ہے کہ صفت بیان نہ کرنے کے باوجود اس کی بیع درست ہے، مگر اس صورت میں خریدار کو خiar روتی بھی ملتا ہے۔

امام قدوری کہتے ہیں:

”وَمِنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرِهِ فَالْبَيْعُ جَائزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ

إِنْ شَاءَ أَخْذَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ.“

(جو شخص ایسی چیز خریدے جسے اس نے دیکھا نہ ہو تو یہ بیع جائز ہے اور اسے اختیار ہوگا کہ جب اس چیز کو دیکھے تو اگر چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو روکر دے۔^(۱)

اور امام مالک کے نزدیک یہ بیع اس وقت درست ہوگی جبکہ صفت بیان کرے اور اس طرح بیان کرے کہ اس کا دوسرا اشیاء سے امتیاز ہو جائے۔

مالکی فقہ کی کتاب ”ارشاد السالک“ میں لکھا ہے:

(۱) مختصر القدوری: ۱۸۷

”یجوز بیع الغائب علی الصفة فیما
یغلب مصادفته علیها، و لا یمکن الإطلاع علیه حال العقد،
فیذکر منها ما یمیزه عن غيره، و تختلف الأغراض و الأثمان
بها، فإن وافق لزム، و إلا ثبت للمتبايع الخيار.“

(بیع الغائب علی الصفة ان چیزوں میں جائز ہے جن میں چیز کا اسی بیان
کردہ صفت پر پایا جانا غالب ہو اور اس پر مطلع ہونا حالت عقد میں ممکن نہ ہو،
پس ان صفات میں سے وہ صفات بیان کر دے جو اس چیز کو دوسرا چیز و
سے ممتاز کر دیتی ہوں اور جن کی وجہ سے چیزوں کے اغراض اور قیمتیں مختلف
ہو جاتی ہیں، پس اگر وہ چیز اس کے موافق ہو تو بیع لازم ہوگی ورنہ خریدار کے
لیے اختیار ثابت ہوگا۔ (۱)

علامہ دسوی نے مالکیہ کے مسلک کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ بیع غائب کی چھ صورتیں
ہیں: کیوں کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو صفت بیان کی جائے، یا صفت بیان نہ کی جائے، پھر
ان میں سے ہر ایک کی تین صورتیں ہیں: یا توازی طور پر بیع کی جائے، یا خیار کی بنیاد پر، یا
اس کی کوئی بات نہ ہو، مل کر سکوت ہو۔ علامہ دسوی کہتے ہیں کہ یہ ساری صورتیں جائز
ہیں سوائے دو صورتوں کے: ایک وہ جس میں صفت بیان نہ کی جائے اور بیع لزوماً کی جائے
اور دوسرا وہ جس میں صفت بیان نہ کی جائے اور لزوم یا خیار سے سکوت ہو۔ (۲)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بیع کی صفت بیان کی گئی ہو تو غائب ہونے کے
باوجود اس چیز کی بیع درست ہے اور اگر بیع غائب کی صفت بیان نہ کی گئی ہو تو اس بارے میں
ان سے دوروایات ہیں۔

حنبلی فقیہ علامہ شمس الدین ابن قدامة ”الشرح الكبير“ میں لکھتے ہیں:

(۱) إرشاد الممالک: ۱۸۳۱:

(۲) حاشية الدسوقي: ۲۵/۳

”إذا ذكر له من صفات المبيع ما يكفي في صحة السلم
صح بيعه في ظاهر المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. وعنه
لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع، فلم
يصح البيع بها، كالذى لا يصح السلم فيه. ولنا أنه بيع بالصفة
فصح كالسلم، ولا نسلم أن الصفة لا يحصل بها المعرفة؛
فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الشمن ظاهرًا،
ولهذا اكتفى به في السلم، وأنه لا يعتبر في الرؤية الاطلاع
على الصفات الخفية.“

(اگر خریدار کے لیے بیع کی صفات میں سے وہ صفات بیان کردے جو عیق
سلم کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہیں تو ظاہر مذهب میں یہ بیع صحیح ہو گئی اور یہ کی
اکثر اہل علم کا قول ہے اور امام احمد رحمہ اللہ علیہ سے دوسرا قول یہ منقول ہے کہ
جب تک چیز کو دیکھتا نہیں، بیع صحیح نہیں ہوتی؛ کیوں کہ صفت بیان کردینے
سے بیع کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوتی، لہذا بیع اس سے صحیح نہیں ہوتی،
جیسے کہ وہ صورت جس میں بیع سلم صحیح نہیں ہوتی۔ ہماری ولیل یہ ہے کہ یہ بیع
با صفت ہے، لہذا بیع سلم کی طرح یہ بھی جائز ہے اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ صفات
بیان کرنے سے بیع کی معرفت حاصل نہیں ہوتی؛ کیوں کہ صفات ظاہرہ سے جن
کی بنا پر ظاہری لحاظ سے قیمت مختلف نہیں ہوتی، بیع کی جان کاری حاصل ہو جاتی
ہے اور اسی وجہ سے اس کو بیع سلم میں کافی سمجھا گیا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ روایت
کی صورت میں بھی صفات خفیہ پر مطلع ہونے کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ (۱)
اور ”الانصاف“ میں المرداوی نے لکھا ہے:

(۱) الشرح الكبير: ۲۵/۳

”إِذَا لَمْ يَرِ المُبَيِّع فَتَارَةً يُوصَفُ لَهُ وَتَارَةً لَا يُوصَفُ فَإِنْ لَمْ
يُوصَفْ لَهُ لَمْ يَصِحِ الْبَيْعُ عَلَى الصَّحِيفَ مِنَ الْمَذَهَبِ وَعَلَيْهِ
الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يَصِحُ“.

(اگر بیع کو دیکھا نہیں تو بھی اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے اور بھی وصف
بیان نہیں کیا جاتا، پس اگر وصف بیان نہیں کیا گیا تو مذہب میں صحیح قول کے
مطابق بیع صحیح نہیں ہے اور ہمارے اصحاب بھی اسی پر ہیں اور ایک قول امام
احمد سے یہ ہے کہ یہ بیع صحیح ہے۔^(۱))

اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے میں دو قول ہیں؛ چنانچہ علامہ خطیب
الشربینی نے لکھا ہے:

”فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْغَائِبَةِ وَالْحَاضِرَةِ الَّتِي لَمْ تُرْ قُولَانِ: قَالَ
فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ وَالصِّرْفِ مِنَ الْجَدِيدِ: يَصِحُّ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ رَحْمَهُمُ اللَّهُ. وَقَالَ بِتَصْحِيحِهِ
طَائِفَةٌ مِنْ أَئْمَانَا وَأَفْتَوَاهُ، مِنْهُمْ الْبَغْوَى وَالرُّوْبَانِىُّ، وَقَالَ فِي
الْأَمْ وَالْبَوْيَطِيِّ لَا يَصِحُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمَزْنَى.“

(غالب چیزوں اور ان حاضر چیزوں کے سلسلے میں جن کو دیکھا نہیں جاتا،
دو قول ہیں: امام شافعی کے قول قدیم میں اور املاء اور صرف کے جدید قول میں
ان کی بیع صحیح ہے اور امام مالک اور امام ابوحنیفہ اور امام احمد کا یہی قول ہے اور
ہمارے انہی کی ایک جماعت نے اسی کو صحیح قرار دیا اور اسی کے مطابق فتوی دیا
ہے، جن میں امام بغوی اور امام رویانی بھی ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب الام میں اور بویطی کی روایت میں کہا کہ ان کی بیع صحیح نہیں ہے اور اسی

کومزنی نے اختیار کیا ہے۔) (۱)

اسی طرح الجیرمی نے منہاج کے حاشیہ میں اور امام غزالی نے الوسیط میں ذکر کیا ہے، الجیرمی کی عبارت یہ ہے:

”وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْأَئْمَةُ
الثَّالِثُ: يَصِحُّ الْبَيْعُ إِنْ ذُكِرَ جُنْسُهُ أَيْ: أَوْ نُوعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِيَاهُ
وَيُشَكُّ الْجِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَاةِ.“

(اظہر یہ ہے کہ بیع غائب صحیح نہیں ہے اور دوسرا قول اور اسی کے باقی تین
ائمه بھی قائل ہیں، یہ ہے کہ بیع غائب صحیح ہے اگر میمع کی جنس اور نوع بیان کر دی
جائے، اگرچہ کہ متعاقدین نے اس کو نہ دیکھا ہو اور رویت کے وقت خریدار کو
اختیار ملے گا۔) (۲)

الغرض اکثر فقہا کے نزدیک غائب چیز کی بیع جائز ہے اور اس کا وصف بیان کر دیا
جائے تو اس صورت میں فقہا کی اکثریت اس کو جائز قرار دیتی ہے؛ حتیٰ کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کا جواز ہی راجح ہے۔

لہذا الکرداں کاروبار میں جو میمع کا وصف و کیفیت بیان کر کے اس کی تمام ضروری باتوں
کو واضح کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ کاروبار اکثر علماء فقہا کے نزدیک جائز و درست ہے۔

الکرداں کاروبار میں خیار رویت
البتہ یہاں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے ساری تفصیلات جاننے کے بعد کوئی
چیز خریدی تو کیا اب اسے خیار رویت حاصل رہے گا یا نہیں؟

علمائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ خیار رویت کا جوڈ کر آتا ہے، اس سے مقصود تو میمع کے
وصف کا علم ہی ہے، لہذا جہاں وصف اس طرح بیان کر دیا گیا کہ میمع کی پہچان ایک حد تک

(۱) الإقناع ۳۱۸/۱

(۲) حاشیۃ البجیرمی علی المنهاج ۲۷۹/۶

اس طرح ہو گئی کہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے تو اس سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص ایک غائب چیز کا سودا کرے تو یہ بیع جائز ہو جاتی ہے اور اس کو خیار رویت ملتا ہے، مگر رویت سے مراد وہی وصف و کیفیت کا معلوم ہو جاتا ہے، لہذا جب وصف و کیفیت بیع کی معلوم ہونے کے بعد خریدا تو اس کو خیار رویت نہیں ملے گا۔

علامہ ابن نجیم ال مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ”البحر الرائق“ میں اور انہی کے حوالے سے علامہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان القلبی نے ”مجمع الانہر“ میں اور علامہ شامی نے ”رد المحتار“ میں فرمایا:

”وَ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَاةِ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ مِنْ بَابِ عُمُومِ الْمَجَازِ ،
فَصَارَتِ الرُّؤْيَاةُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْمَجَازِ لِيُشَمَلَ مَا إِذَا كَانَ
الْمَبِيعُ مِمَّا يُعْرَفُ بِالشَّمِّ كَالْمُسْكِ ، وَ مَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ رُؤْيَاةِ
فَوْجَدَهُ مُتَغَيِّرًا ، وَ مَا اشْتَرَاهُ الْأَغْمَىِ .“

(رویت سے مراد عدم مجاز کی قبیل میں مقصود چیز کا علم ہو جاتا ہے، لہذا رویت معنی مجاز کے افراد میں سے ہو گئی؛ تاکہ یہ ان صورتوں کو بھی شامل ہو جائے کہ بیع سوچھی جانے والی چیزوں میں سے ہو جیسے مشک اور یہ کہ بیع دیکھنے کے بعد خریدا ہو پھر اس کو اس صفت سے متغیر پائے اور یہ کہنا بینا نے خریدا ہو۔ (۱)

لہذا اصل مقصود بیع کی حالت و کیفیت کا علم ہے، جب ایک شخص اس کو کسی بھی طرح جان لے تو یہ بات جائز ہے کہ اس کی خریدی کرے اور اس کے بعد اس کو خیار رویت نہ ہو گا۔ یہ بات جو حضرات فقہاء نکھلی ہے، اس بیع کے بارے میں ہے جو عادی و عام ہے؛ لیکن جہاں تک الکثر انک کاروبار کا مسئلہ ہے، اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ کیا ویب سائنس پر تصویروں کے ذریعے یا کسی بروشور پر لکھی ہوئی تفصیلات سے بات اس قدر واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو فقہاء کے کلام پر منطبق کیا جاسکے؟

(۱) البحر الرائق: ۲۹/۶، شامی: ۵۹۳/۶.

اگر ہم اس پر فقہا کے کلام کو منطبق کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکتا ہے کہ ان تفصیلات کو معلوم کر لینے کے بعد اس کا خیار روایت ساقط ہو گیا اور وہ گویا اس چیز سے راضی ہو گیا، لہذا جب وہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کو حاصل کرے تو اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ خیار روایت کی بنا پر واپس کر دے۔

اور اگر ہم اس کو فقہا کے کلام پر منطبق نہیں سمجھتے تو پھر اس کو خیار روایت حاصل ہو گا اور مگر دونوں صورتوں میں صعوبت درج ہے، پہلی صورت میں جبکہ ہم اس کو کلام فقہا پر منطبق نہیں، خریدار کے لیے صعوبت کا باعث ہے اور اگر ہم اس کو کلام فقہا پر منطبق نہ مانیں تو باعث کے لیے صعوبت ہے۔

اس لیے احرق کی رائے یہ ہے کہ اس میں اگر مبنی ان اوصاف کے مطابق ہو تو خریدار کو واپسی کا اختیار نہ ہونا چاہیے اور اگر ان اوصاف کے مطابق نہ ہو تو اس کو واپسی کا حق ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ نہیں میں ہمیشہ رکھتا ہے اور اس کی تائید ان فقہا کے کلام سے ہوتی ہے جو ”بیع بالصفة“ اور ”بیع علی البرنامج“ کی صورت میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر مبنی اس صفت کے مطابق ہو تو واپسی کا حق نہیں رہتا، بل کہ بیع لازم ہو جاتی ہے۔

چنان چہ فقہ مالکی کی کتاب ”الشعر الدانی“ میں ہے:

”فیان و جده علی الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا

خیار له وإن و جده علی غيرها فهو بالخیار باللزوم والفسخ.“

(پس اگر مبنی کو اس صفت پر پایا جو دفتر میں لکھی ہوئی ہے تو بیع لازم ہو گئی)

اور خریدار کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہو گا اور اگر اس صفت کے خلاف مبنی کو پایا

تو خریدار کو اختیار ہو گا کہ لازم کر لے یا فسخ کر دے۔ (۱)

(۱) الشمر الدانی: ۵۲۱/۱

اور علامہ ابو الحسن المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کفاية الطالب الربانی“ میں فرمایا ہے:

”فَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي فِي الْبَرَنَامِجِ لِزْمٍ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ
لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى غَيْرِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي تَزُومِ الْبَيْعِ وَفَسْخِهِ.“

(پس اگر بیع کو اس صفت پر پایا جو فقرت میں لکھی ہوئی ہے تو بیع لازم ہو گئی
اور خریدار کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہو گا اور اگر اس صفت کے خلاف بیع کو پایا
تو خریدار کو اس بیع کے لازم کرنے یا فتح کرنے کا اختیار ہو گا۔ (۱)

اور ”الفواكه الدوانی“ میں ہے:

”فَأَقِيمَتِ الصَّفَةُ مَقَامَ الرُّؤْيَا، فَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى الصَّفَةِ لِزْمٍ

الْمُشْتَرِيِّ، وَإِلَّا خِيرُ الْمُشْتَرِيِّ.“

(پس یہاں صفت بیان کرنے کو روایت کا قائم مقام فراہدیا گیا ہے، لہذا
اگر بیع کو اس صفت کے مطابق پائے تو وہ بیع خریدار کو لازم ہو گی ورنہ خریدار کو
اختیار دیا جائے گا۔ (۲)

اور فتنہ حنبلي میں بھی اسی کو لیا گیا ہے، چنانچہ علامہ شمس الدین بن قدامہ حنبلي رحمۃ اللہ علیہ[ؑ]
نے ”الشرح الكبير“ میں فرمایا:

”إِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي إِنْهِ مُتَى وَجَدَهُ عَلَى الصَّفَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ
الْفَسْخُ، وَبِهَذَا قَالَ أَبْنُ سِيرِينَ، وَأَيُّوبُ، وَمَالِكُ، وَ
الْعَنْبَرِيُّ، وَاسْحَاقُ، وَأَبُو ثُورٍ، وَابْنُ الْمَنْذَرِ.“

(جب یہ بات ثابت ہو گئی تو جو شخص بیع کو اسی صفت پر پائے تو اس کو فتح کا
اختیار نہ ہو گا، یہی قول ابن سیرین، ایوب، مالک، عنبری، اسحاق، ابوثور اور

(۱) کفاية الطالب الربانی: ۲۳۳/۲

(۲) الفواكه الدوانی: ۱۵۶/۳

امن المذر رکا ہے۔ (۱)

اور المرداوی نے ”الإنصاف“ میں لکھا ہے:

”واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيراً، أو وجده

على خلاف ما وصفه له على الصحيح من المذهب مطلقاً.“

(جاننا چاہئے کہ خریدا کو فسخ کرنے کا حق ہے اگر چیز کو بدلنا ہوا پائے یا اس صفت

کے خلاف پائے جو بیان کی گئی تھی، یعنیہب کے صحیح قول کے مطابق ہے۔ (۲)

لہذا ان ائمہ کرام کے مسلک کے مطابق گنجائش ہے کہ ہم بیع کے موافق وصف ہونے کی صورت میں خریدار کے اختیار کو ساقط مانیں اور اگر وصف کے موافق نہ ہو تو اس کا اختیار تسلیم کریں۔

ایک ضروری وضاحت

یہاں تک چند اہم اصولوں کی روشنی میں ”الکرٹ انک کاروبار“ کی شرعی حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے؛ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ یہاں ہم نے بیع و شراء سے متعلق تمام اصول بیان نہیں کئے ہیں؛ کیونکہ مقصود صرف ان اصولوں کو زیر بحث لانا تھا جن کی رو سے الکرٹ انک کاروبار کے سلسلے میں کوئی پچیدگی اور اہم ہو سکتا تھا۔

باقی دیگر اصول جو اس سلسلے میں واضح تھے، ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا، جیسے یہ اصول کہ خریدی اور پیچی جانے والی چیز جائز و حلال ہون چاہئے اور یہ کہ مقدوراً تسلیم ہون چاہئے، وغیرہ، کیونکہ یہ اصول سب کو معلوم بھی ہیں اور واضح بھی، لہذا ان کے بیان و تشریح کی ضرورت نہ تھی۔

الکرٹ انک کاروبار میں ”بیع الصرف“ کا حکم

”الکرٹ انک کاروبار“ کے سلسلے میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیع الصرف کی

(۱) الشرح الكبير: ۲۶/۳

(۲) الإنصاف: ۲۵/۵

بھی گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیع الصرف میں چون کمی الفور دونوں جانب سے قبضہ لازم ہے اور وہ یہاں نہیں ہو سکتا، لہذا الکثر انک کا رو بار میں ”بیع صرف“ کی اجازت نہ ہوگی۔

بیع الصرف کی تعریف اور حکم

سونے و چاندی کے کاروبار کی ایک صورت یہ ہے کہ خود سونے و چاندی کے بدالے کاروبار ہوا اس کی تین صورتیں ہیں:

ایک یہ کہ سونے کو سونے سے تبادلہ کیا جائے۔

دوسری یہ کہ چاندی کو چاندی سے تبادلہ کیا جائے۔

تیسرا صورت یہ ہے کہ سونے کے بدالے چاندی یا چاندی کے بدالے سونے کی خرید فروخت کی جائے۔

ان تینوں صورتوں سے کاروبار کو شرعاً میں ”بیع الصرف“ کہتے ہیں۔

چنانچہ امام قدم و ری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الثمان“

(صرف وہ بیع ہے جس کے دونوں عوض از قبل ثمن ہوں۔) (۱)

الجوهرة النيرة میں ہے:

”الصرف اسم لعقد ثلاثة: بيع الذهب بالذهب ، والفضة

بالفضة وأحدهما بالأخر.“

(صرف تین قسم کے عقد کا نام ہے: ایک سونے کے بدالے سونے بیچنا

دوسرے چاندی کے بدالے چاندی بیچنا اور تیسرا سونے کے بدالے چاندی یا

چاندی کے بدالے سونے بیچنا۔) (۲)

(۱) مختصر القدوری: ۹۰

(۲) الجوهرة النيرة: ۳۲۳/۲.

درر الحکام شرح مجلہ الاحکام میں ہے:

”الصَّرْفُ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ“ یعنی اُنْ بَيْعَ الصَّرْفِ هُوَ بَيْعُ
الذَّهَبِ الْمَسْكُوكِ أَوْ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
وَالْفِضَّةِ بِذَهَبٍ أَوْ مِثْلَهَا فِضَّة.“

(صرف شمن کے بد لئے شمن کی بیع ہے یعنی بیع الصرف ڈھالے گئے یا نا
ڈھالے گئے سونے کی سونے کے بد لئے بیع ہے یا چاندی کی چاندی کے بد لئے بیع
ہے، یا چاندی کی سونے کے بد لے یا سونے کی چاندی کے بد لے بیع ہے۔^(۱)
اور علامہ ابن حیم المصری حجۃ اللہ نے لکھا ہے:

”هُوَ بَيْعٌ بَعْضِ الْأَثْمَانِ بِيَعْضٍ“ کا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ إِذَا بَيْعَ
أَحَدُهُمَا بِالآخِرِ أَيْ بَيْعٌ مَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ بَعْضُهَا بِيَعْضٍ۔“
(وہ شمن میں سے بعض کی بعض کے بد لئے بیع ہے، جیسے سونا اور چاندی
جب ایک کو دوسرے کے بد لے بیجا جائے، یعنی جب شمن میں سے بعض کو
بعض سے بیجا جائے۔)^(۲)

امام برهان الدین مازہ نے ”المحيط البرهانی“ میں لکھا ہے:
”الصرف اسم لنوع و هو مبادلة الأثمان بعضها ببعض، إما
مبادلة الذهب أو مبادلة الفضة بالفضة ، أو مبادلة أحد
الجنسين بصاحبها ، مفرداً كان أو مجموعاً مع غيره.“^(۳)
ان تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ بیع الصرف بیع الأثمان کا نام ہے یعنی شمن کے بد لے
شمن کو بیچا خریدا جائے اور ان کی تین صورتیں ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔

(۱) درر الحکام: ۹۸/۱

(۲) البحر الرائق: ۲۰۹/۶

(۳) المحيط البرهانی: ۳۵۲/۷

پھر ان تین صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت میں یعنی جب سونے کے بد لے سونا اور چاندی کے بد لے چاندی کی خرید و فروخت ہوتا تو دو باتیں لازم ہیں: ایک مجلس عقد میں بد لیں پر قبضہ دوسرے برابر سرا بر ہونا یعنی کی بیشی نہ ہونا اور تیسرا صورت میں ان میں سے ایک بات یعنی مجلس میں قبضہ لازم ہے لیکن برابر سرا بر ہونا لازم نہیں کی بیشی کے ساتھ ان میں معاملہ کیا جاسکتا ہے۔

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ "بدائع الصنائع" میں فرماتے ہیں:

"ثُمَّ بَيْعُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ وَبِخَلَافِ الْجِنْسِ كَالذَّهَبِ
بِالْفِضَّةِ سَوَاءً لَا يَخْتَلِفَانِ فِي حُكْمِ الْقِبْضِ؛ لَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ
صَرْفٌ فِي شَرْطِ فِيهِ التَّقَابُضُ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُانِ فِي جَوَازِ التَّفَاضُلِ
وَعَدَدِهِ فَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ عِنْدَ اتْخَادِ الْجِنْسِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ
الْإِخْتِلَافِ وَلِكُنْ يَجِبُ التَّقَابُضُ اتْحَادُ الْجِنْسِ أَوْ اخْتِلَافُهُ۔"

(پھر ایک جنس کی چیز کا اسی جنس کے بد لے بچنا اور اس کے خلاف دوسری جنس سے بچنا دونوں برابر ہیں، قبضے کے حکم میں دونوں میں اختلاف نہیں ہے؛ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں صرف ہی کی ہیں، لہذا ان میں تقابل شرط ہے، ہاں! یہ دونوں صورتیں تفاضل کے جواز اور عدم جواز میں مختلف ہیں۔ لہذا ان میں جنس کے اتحاد کی صورت میں تفاضل جائز نہ ہوگا اور جنس کے مختلف ہونے کی صورت میں جائز ہوگا، لیکن مجلس میں قبضہ دونوں صورتوں میں ضروری ہے خواجس متعدد ہو یا مختلف ہو۔) (۱)

فارمیکس طریق نگ کے طریق کارکاشرعی حکم

انٹرنیٹ کے ذریعے کئے جانے والے کاروبار ظاہر ہیں کہ سب یکساں نہیں ہیں، بل کہ

(۱) بدائع الصنائع: ۲۵۷/۳

اس سے مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، ان میں بعض جائز ہیں اور بعض ناجائز، لہذا تمام کا حکم ایک نہ ہوگا، بل کہ دیکھا جائے گا کہ کس کاروبار میں شرعی احکام کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اور کس میں ان کو فرموش کیا گیا ہے۔

ان کاروباروں میں سے ایک کاروبار "FOREX TRADING" "فاریکس ٹرینڈنگ" ہے جو دراصل FOREING EXCHANGE کا مخفف ہے اور اس کو MARGIN FX TRADING بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو "الشراء بالهامش" کہتے ہیں اور اس میں انتہیت کے ذریعے لوگ مختلف ممالک کی کرنیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ مارکیٹ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کا طریق کاریہ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے کسی قابل اعتبار کمپنی کو واسطہ بنایا جاتا ہے اور وہ کمپنی اس کاروبار میں اپنے مقررہ کمیشن پر بروکر اور ایجنت کے فرائض انجام دیتی ہے اور یہ کمیشن کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو ہر دو صورت میں ادا کرنے پڑتا ہے۔ یہ بروکر کمپنی (جودرمیان میں واسطے کے طور پر کام کرتی ہے اس کے) کاروبار میں داخل ہونے والے کو بعض سہولیات فراہم کرتی ہے:

ایک تو یہ کہ خریداری کے لیے تاجر کو ساری رقم دینے کی ضرورت نہیں؛ بل کہ وہ جتنے کا کاروبار کرنے چاہتا ہے اس کا صرف پانچ نیصدی حصہ پہلے ادا کرنا پڑتا ہے اور باقی رقم وہ ایجنت کمپنی اپنی جانب سے لگاتی ہے۔ مثلاً ایک لاکھ ڈالر کا کاروبار کرنا ہو تو خریدار کو صرف اس کا پانچ نیصد یعنی پانچ ہزار ڈالر جمع کرنے پڑتا ہے اور باقی ۹۵ ہزار ڈالر وہ کمپنی اس میں لگاتی ہے۔ دوسری یہ کہ کاروبار کے اتار چڑھاؤ اور نفع و نقصان کے بارے میں یہ ایجنت کمپنی خریدار کو معلومات فراہم کرتی ہے۔

تیسرا یہ کہ کاروباری مشورہ بھی فراہم کرتی ہے کہ کوئی چیز خریدنا مناسب ہے اور زیادہ نفع بخش ہے۔

اس کا طریق کاریہ ہے کہ جب کوئی شخص فارمیکس ٹریڈنگ سے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے کسی ایسی کمپنی کے واسطے سے اپنا ایک ضمی اکاؤنٹ (SUB ACCOUNT) کھلوانا ہوتا ہے اور اس میں ایک رقم جمع کرنا پڑتا ہے اور یہ جمع کی جانے والی رقم کاروبار کے لحاظ سے پائچ فی صد ہوئی چاہئے۔

اور جب کوئی شخص اس کاروبار میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اس میں خرید و فروخت کا حق مل جاتا ہے، لہذا وہ فون یا ای میل یا فیاکس کے ذریعے اس اجنبی کمپنی کو کسی ملک کی کرنی خریدنے کا آڈر دیتا ہے اور وہ کمپنی اس کے نام سے اس کو خرید لیتی ہے اور پھر جب اس کی قیمت بڑھتی ہے اور کمپنی فروخت کر دینے کا مشورہ دیتی ہے تو یہ اس کو فون سے یا ای میل یا فیاکس کے ذریعے بینے کا آڈر دیتا ہے اور کمپنی اس کو بیچ دیتی ہے۔

مگر یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کاروبار میں سارا معاملہ کاغذی طور پر عمل میں آتا ہے، مثلاً خریدار نے کمپنی کو خریدنے کا حکم بھیجا اور اس نے خرید کیا تو اس خریداری سے حاصل ہونے والی کرنی حسی طور ہر نہ یہ خریدار اپنے قبضے میں لیتا ہے اور نہ وہ کمپنی جو اس کی جانب سے کام کرتی ہے وہ لیتی ہے، بل کہ صرف حساب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس قدر کرنی خریدی ہے۔ اسی طرح جب وہ بیچتا ہے تو یہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے وہ کرنی فلاں کرنی کے بد لے بیچ دی۔

اور اس خریداری اور فروختگی سے جو نفع ہو اس میں سے وہ اجنبی کمپنی اپنا کمیشن کاٹنے کے بعد اس تاجر کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتی ہے۔ اور اگر اس میں نفع کے بجائے نقصان ہوا تو وہ کمپنی مذکورہ شخص سے اپنا نقصان وصول کر لیتی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خریدا ہوا مال اگر اسی دن بیچ دیا گیا تو مقررہ کمیشن کمپنی لیتی ہے اور اگر اس میں تاخیر ہوئی تو ہر دن کے لحاظ سے اس میں ایک خاص مقدار کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

جب فارمیکس ٹریڈنگ کا طریق کار ہم نے سمجھ لیا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ طریق کار

شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طریق کا متعدد غیر شرعی امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے:
 (۱) ایک تو یہ کہ اس میں خریدار کا میمع پر کسی قسم کا قبضہ نہیں ہوتا، نہ حقیقی، نہ حکمی اور یہ ظاہر کہ میمع پر قبضے کے بغیر اس کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں؛ لہذا یہ کاروبار جائز نہیں۔

رہایہ سوال کہ اس میں قبضہ پایا جاتا ہے، اس طور پر کہ مذکورہ ایجنت کپنی خریدار کی جانب سے اس پر قبضہ کرتی ہے، تو عرض ہے کہ بات ایسی نہیں؛ کیوں کہ جیسا کہ عرض کیا گیا۔ اس کاروبار میں خریدی ہوئی کرنی کو الگ کر کے لیا نہیں جاتا؛ بل کہ صرف کاغذی کارروائی کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اتنی بات قبضے کے لیے کافی نہیں؛ کیوں کہ حسب تصریح فقهاء کرام میمع میں لازم ہے کہ بالع میمع کو اپنی چیز سے الگ کر کے حوالے کرے اور وہ چیز کسی اور کے حق میں مشغول نہ ہو۔

فقہاء کرام نے صحت تسلیم کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ بالع میمع کو اس طرح الگ کر کے حوالے کرے کہ وہ دوسرے کے حق میں مشغول نہ رہے۔ چنانچہ متعدد فقهاء نے لکھا ہے:

”وَأَنْ يَكُونَ مُفْرِزاً أَغْيَرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ۔“

(میمع اس طرح الگ و ممتاز ہو کہ دوسرے کے حق میں مشغول نہ رہے۔) (۱)

اور ظاہر ہے کہ یہاں اس طرح نہیں ہوتا، بل کہ جب لاث خریدی جاتی ہے تو صرف خریدار کے اکاؤنٹ میں وہ مقدار درج کر دی جاتی ہے، نہ خریدار اس پر قبضہ کرتا ہے اور نہ اس کی جانب سے وہ ایجنت کپنی اس پر قبضہ کرتی ہے، لہذا اس میں قبضہ کسی طرح متحقق نہیں ہوتا۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس میں وہ ایجنت کپنی تاجر کو قرض فراہم کرتی ہے اور یہ خود اس کی ملک میں نہیں ہوتا، صرف حساب کتاب میں ہوتا ہے؛ کیوں کہ جس قدر قرض وہ فراہم کرتی

(۱) فتح القدير: ۲۹/۷، البحر الواقع: ۸، مجمع الأئمہ: ۳۲/۳

ہے اس کے پاس وہ موجود نہیں ہوتی، اسی طرح جب پتاجر کمپنی سے قرض لے کر اس کو دوسروں کو فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتی ہر صرف حساب کتاب میں یہ درج ہوتا ہے۔ لہذا یہ سارا معاملہ ”بیع معدوم“ کے تحت داخل ہے اور یہ ممنوع ہے۔

حدیث میں ہے:

حضرت حکیم بن حزام نے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:
”لَا تَبْيَعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.“

(جو چیز تیرے پاس نہ ہواں کو نہ بینا۔) (۱)

(۳) تیرے یہ کہ اس میں قرض پر کمیش پایا جاتا ہے؛ کیوں کہ وہ ایجنت کمپنی جو اس تاجر کو ۹۵% فی صدر قسم کاروبار کے لیے فراہم کرتی ہے، اس پر وہ کمیش یعنی سود لیتی ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ:

”كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا“

(جو قرض نفع لائے وہ سود ہے۔) (۲)

نیز کمپنی کا تاجر کے ساتھ یہ معاملہ کہ اگر فروختگی میں تاخیر ہوئی تو ہر دن کے بد لے اس تدریم کا اضافہ ہو گایہ بھی خالص سود ہے، لہذا کمپنی کا تاجر سے یہ معاملہ سودی معاملہ ہے؛ اس وجہ سے بھی یہ حرام و ناجائز ہے۔

(۴) چوتھے یہ کہ اس کاروبار میں لوگوں کا مقصود کرنی نہیں ہوتی، بل کہ اس خرید و فروخت سے ان کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ کرنی کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے نفع کمالیا جائے، نہ کوئی کرنی ان کی ملک میں داخل ہوتی ہے اور نہ ان کے قبضے میں آ کر ان کے ضمان میں آتی ہے۔ اور اسی کو شریعت میں سہ بازی اور قمار کہتے ہیں اور یہ حرام و ناجائز ہے۔

(۵) پانچویں یہ کہ اس عقد میں قرض اور بیع دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے؛ کیوں کہ ایجنت

(۱) أبو داود: ۵۰۵، ترمذی: ۱۲۳۲، نسانی: ۳۶۱۳، ابن ماجہ: ۲۸۷

(۲) سنن بیهقی: ۳۵۰۵

کمپنی تاجر کو قرض دیتی ہے اور یہ شرط لگاتی ہے کہ یہ عقد اسی صورت سے ہوگا کہ اس کمپنی کو واسطہ بنایا جائے، اس طرح اس عقد میں قرض و بیع دونوں جمع کردئے گئے ہیں، جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْعٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ.“

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور بیع سے اور ایک بیع میں دو شرطوں سے اور ایسی چیز کے بیع سے منع کیا ہے جو ضمان میں نہ ہو۔) (۱)

ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:

”لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْعٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ.“

(قرض اور بیع کو جمع کرنا جائز نہیں اور نہ بیع میں دو شرطوں کو اور نہ ایسی چیز کا نفع لینا جو ضمان میں نہیں آیا۔) (۲)

(۶) چھٹے یہ کہ اس عقد میں چوں کہ خریدار صرف پانچ فی صد رقم جمع کرتا ہے اور باقی رقم جو اس کو کمپنی فراہم کرتی ہے وہ اس پر دین ہوتی ہے، پھر اس کو کرنی فرودخت کرنے والا بھی اسے کوئی قبضہ نہیں دیتا جیسا کہ اوپر گزر گیا، لہذا ادھر بھی دین ہوا، اس طرح خرید فرودخت کی دونوں جانب سے بھاں دین ہوتا ہے، جس کو بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے اور یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ

”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ“

(۱) سنن نسائی صغیری: ۳۶۲۹، سنن کبریٰ نسائی: ۲۱۸۰، سنن بیهقی: ۳۳۶/۵

(۲) ترمذی: ۱۲۳۷، سنن کبریٰ نسائی: ۲۱۸۱

(نبی کریم نے دین کی دین کے بد لے بیع کرنے سے منع کیا ہے) (۱)
 مذکورہ وجوہات کی بنیاد پر ”فاریکس ٹریڈنگ“ کا یہ طریقہ ناجائز ہے، اس سے بچاؤ جب و
 لازم ہے اور اس طریقے سے کمالی ہوئی آمدنی بھی حرام و ناجائز ہے جس سے احتراز لازم ہے۔
 اس سلسلے میں بہت سے علمانے کلام کیا ہے اور تقریباً اکثر حضرات نے اس معاملے کو
 مذکورہ وجوہات یا اور وجوہات کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے، مثلاً:
شیخ یوسف بن عبد اللہ الشیلی محاضر فقه مقارن معہد العالی للقضاء نے اپنے مقالے
 ”الخدمات المصرفیة لاستثمار أموال العملاء و أحکامها في الفقه
 الإسلامي“ میں لکھا ہے:

”من الواضح أن المعاملة بالصفة المذكورة آنفاً محرمة؛ لأن
 فيها قرضاً بفائدة ، فالمشترى يشتري السهم ، و يدفع للسمسار
 فائدة مقابل مبلغ القرض الذى حصل عليه ، و السمسار يدفع
 فائدة للبنك مقابل مبلغ القرض لصالح العميل.“

(یہ بات واضح ہے کہ یہ معاملہ اس کیفیت کے ساتھ جو انہی ذکر کیا گیا، حرام
 ہے، کیون کہ اس میں سود کے ساتھ قرض ہے، پس خریدار حصہ (شیر) خریدتا ہے
 اور حاصل شدہ قرض کے بد لے میں سو لیجٹ کمپنی کو دیتا ہے اور لیجٹ کمپنی بینک
 کو سود دیتی ہے اس قرض کے بد لے میں جو اس کا بک یا کائنٹ کو ملا ہے۔ (۲)
 اور شیخ احمد بن محمد الشیلی (استاذ الفقه، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیۃ، القصیم) اپنی
 کتاب ”الأسہم والسنادات و أحکامها في الفقه الإسلامي“ میں اس کا حکم بیان
 کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لا إشكال في تحريم هذا النوع من التعاملات؛ لأنها من

(۱) دارقطنی: ۳۰۶۰-۳۰۷۱، مستدرک: ۳۲۲۲، شرح السنۃ: ۲۰۹۱

(۲) الخدمات المصرفیة: ۱۹۲۲

صمیم الربا ، فالمشتری یقتصر مالاً من السمسار بفائدة ثابتة
متفق عليها۔“

(اس قسم کے معاملات کے حرام ہونے میں کوئی شبہ و اشکال نہیں؛ کیوں کہ
یہ خالص سود ہے؛ کیوں کہ خریدار ایجنت کمپنی سے ایک ایسے سود پر مال قرض لیتا
ہے، جو اس معاملے پر دنوں کے اتفاق سے ثابت ہوتا ہے۔) (۱)

الغرض فاریکس ٹریڈنگ کا جو طریق کار رانچ ہے، اس میں متعدد امور خلاف شرع ہیں،
اس لیے اکثر علماء و فقهاء نے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے اس کو جائز
قرار دیا ہے، اس کی بنیاد اس معاملے کی پوری حقیقت سے ناقصیت ہے، جیسے کہ ایک فتویٰ ”
جامعۃ الاذہر مصر“ کا نظر سے گذرا، کہ اس میں اس کے جواز کی جانب رجحان بیان کیا گیا؛ مگر
جمہور علماء نے جب اس کی پوری حقیقت کو سمجھا تو جو بات سامنے آئی وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ
متعدد غیر شرعی امور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱) الأسهم والسدادات وأحكامها: ۲۲۲

مقصد ثانی

الکرٹ انک خدمات اور شرعی احکام

ہم نے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ ”الکرٹ انک بیع و تجارت“ سے متعلق تھی اور شروع بحث میں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ الکرٹ انک کاروبار کی ایک صورت خدمات (SERVICES) کی ہے، لہذا یہاں اس بارے میں نہایت مختصر کلام کیا جاتا ہے؛ کیوں کہ اس میں بھی اکثر وہی اصول ہیں جو بیع و تجارت کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں۔

معلوم ہون چاہئے کہ ”الکرٹ انک کاروبار“ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے واسطے سے اپنی اپنی خدمات پیش کرتی ہیں اور ان خدمات کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، جیسے:

- (۱) ویب سائیٹ بنانے کے لیے جگہ (Space) فراہم کرنا، جس میں سالانہ اجرت دیکر اس جگہ کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- (۲) کسی خاص قسم کے سافٹ ویری کی خدمت فراہم کرنا۔
- (۳) بعض چیزوں کوڈ اون لوڈ کرنے کی سہولت مہیا کرنا۔
- (۴) بعض پروگرام کو چلانے کے لیے اس کا سافٹ ویر فراہم کرنا، وغیرہ۔
- (۵) مختلف موضوعات اور فنون کی کتابوں سے استفادے کی سہولت دینا۔
- (۶) انٹرنیٹ کے استعمال کی سہولت دینا۔ وغیرہ

پھر ان میں سے بعض کمپنیاں تو اپنی خدمات بلا معاوضہ فراہم کرتی ہیں اور بعض

معاوٹے پر مہیا کرتی ہیں، جہاں تک معاملہ ہے بلا معاوضہ فرماہم کرنے کا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ عطیہ وہ بہ کھلائے گا اور اس کا جواز سب کو معلوم ہے اور اگر وہ معاوٹے کے بد لے فرماہم کرتی ہیں تو یہ معاملہ اجرت و کرایہ داری کا ہے اور اس سلسلے میں شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھنے سے ان کے احکام کو معلوم کیا جاسکتا۔

شریعت میں اجارتے کے اہم اصول

شریعت اسلامیہ میں اجارتہ یعنی کرایہ داری کے سلسلے میں متعدد اصول ہیں، ان میں سے نہایت اہم اصول یہاں ذکر کرتا ہوں؛ تاکہ ان کی روشنی میں الکرمانیک خدمات کا حکم معلوم ہو جائے۔

(۱) کرایہ داری کے معاملے میں اکثر اصول وہی ہیں جن کا ذکر بیع و تجارت کے تحت گزر گیا، مثلاً ایجاد و قبول، مجلس کا اتحاد، وغیرہ، لہذا یہاں بھی ان امور کا لحاظ رکھنا لازم ہے، تاکہ الکرمانیک طریقے پر کیا جانے والا کرایہ داری کا معاملہ بھی شرعاً جائز و صحیح قرار پائے۔

(۲) اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو خدمت حاصل کرنا ہے وہ شرعاً جائز ہونا چاہئے، اگر وہ خدمت ہی سرے سے جائز نہ ہو تو اس کا حاصل کرنا ہی حرام و ناجائز ہے، مثلاً بعض کپسیاں گانے اور میوزک، گندی تصاویر، فلمیں، وغیرہ کوڈاون لوڈ کرنے کی سہولت دیتی ہیں، مگر اس کا حاصل کرنا حرام و ناجائز ہے؛ کیونکہ یہ ساری چیزیں اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہیں۔

(۳) کرایہ داری میں مدت مقرر ہوتی ہے کہ اس چیز سے اتنی مدت تک فائدہ اٹھایا جائے گا، اور یہ مدت اکثر علماء کے نزدیک خواہ لمبی ہو یا مختصر، دونوں طرح جائز ہے، لہذا اجب وہ مدت پوری ہو جائے تو اجارہ ختم ہو جائے گا۔ مثلاً یہ طے ہوا کہ ”سافٹ ویری“ ایک ماہ تک کے لیے فرماہم کیا جاتا ہے اور اس کا ایک ماہ کا کرایہ اتنا ہو گا تو اس کے بعد وہ اجارہ ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی مدت طے نہ ہوئی تو اگر کرایہ پر یہنے والا اس کے بعد کے ماہ میں بھی

اس کا استعمال جاری رکھ کا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس دوسرے ماہ میں بھی اس کو کرایہ پر لے لیا ہے، لہذا دوسرے ماہ کا کرایہ بھی اس پر لازم ہو گا۔

(۲) اجارہ پر جس چیز کا معاملہ ہو وہ مقدور انتسابیم ہونا چاہیے، جیسے کہ نجع میں بھی یہی اصول ہے، اگر وہ چیز پر دکنے جانے کا امکان نہ ہو تو ایسی چیز کا اجارہ بطل ہو گا۔ والله اعلم

حررہ العبد محمد شعیب اللہ خان
خادم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

۱۴۳۸ھ
۲۹ اکتوبر ۲۰۱۶ء